

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصحیح و اضافہ شدہ

بکھڑوئی

INDEX

انتخاب و ترتیب

حضرت مولانا محمد یونس صاحب انوار النورانی پوری رحمۃ اللہ علیہ


خلف الرشید

مبلغ اعظم حضرت مولانا محمد عمر صاحب انوار النورانی پوری رحمۃ اللہ علیہ

AhleSunnah Library [nmusba.wordpress.com]

مکتبہ اشرفیہ سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاسم پورہ کراچی
آرڈر نمبر ۲۲۳۶۵۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



تصحیح و اضافہ شدہ

بکھڑوئی


اول تا ہشتم

انتخاب و ترتیب

حضرت مولانا محمد یونس صاحب اپال ن پوری ^{العالی} _{مطلبہ}
خلف الرشید

مبلغ اعظم حضرت مولانا محمد عمر صاحب اپال ن پوری ^{رحمۃ اللہ علیہ}
تصحیح و نظر ثانی

حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب اپال ن پوری ^{العالی} _{مطلبہ}



مکتبہ شیخ سعید محمد خان ^{رحمۃ اللہ علیہ} قاسم سینٹر، دوکان نمبر ۳۳ کراچی
۳۲۲۱۳۰۵۸ اردو بازار فون

جملہ حقوق اشاعت و طباعت بشمول کمپیوٹر کتابت بحق ناشر محفوظ ہیں

کاپی رائٹ رجسٹریشن نمبر 16290

نام کتاب بکھڑے موتی

تالیف حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ

اشاعت اول ربیع اول ۱۴۲۳ھ

اسٹاکسٹ

کتب خانہ اشرفیہ قاسم سینٹر، دوکان نمبر ۳۳، اردو بازار کراچی
فون: ۳۲۲۱۳۰۵۸

استدعا: اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت، طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشر ہونے کے ناطے اگر سھوا کوئی غلطی رہ گئی ہو تو مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ازالہ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً
منجانب: احباب مکتبہ شیخ سعید محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کراچی

دیگر ملنے کے پتے

درخشاں بک ایجنسی، مدنی مسجد تبلیغی مرکز کراچی	مکتبہ شیخ، بہادر آباد کراچی	مکتبہ تھانوی، مولوی مسافر خانہ کراچی
دارالاشاعت، اردو بازار کراچی	بیت القرآن، اردو بازار کراچی	علمی کتاب گھر، اردو بازار کراچی
نیو کتب خانہ امداد الغریب، حیدر چوک حیدر آباد	مکتبہ دارالخیر، چھوکی گھٹی حیدر آباد	قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی
شاہد پر فیوم پبلش، ماڈل ٹاؤن B بہاولپور	عزیز کتاب گھر، بیراج روڈ سکھر	کتاب مرکز، فریئر روڈ۔ سکھر
مکتبہ النور، بیرون تبلیغی مرکز رائے ونڈ	مکتبہ حقانیہ، ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان	مکتبہ امدادیہ، ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان
المیزان، الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور	المصباح، ۱۶۔ اردو بازار لاہور	مکتبہ طارق، بیرون تبلیغی مرکز رائے ونڈ
التخلیل پبلشنگ ہاؤس، اقبال روڈ راولپنڈی	اسلامی کتاب گھر، عظیم مارکیٹ راولپنڈی	مدنی جنرل اسٹور، تبلیغی مرکز سرگودھا
مدنی کتب خانہ، شنکیاری روڈ مدنی مسجد مانسہرہ	عثمان دینی کتب خانہ، شنکیاری روڈ مانسہرہ	کشمیر بک ڈپو، تلہ گنگ روڈ چکوال
حافظ کتب خانہ، چارسدہ چوک مردان	مکتبہ اسلامیہ، اڈہ گامی ایبٹ آباد	المدینہ کتب خانہ، جیل روڈ کوہاٹ
مکتبہ الاحمد، باکھری بازار ڈیرہ اسماعیل خان	مکتبہ عثمانیہ، میناخیل بازار کی مروت	مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
زیب آرٹ پبلشرز، محلہ جنگلی پشاور	یونیورسٹی بک ایجنسی، خیبر بازار پشاور	وحیدی کتب خانہ، قصہ خوانی بازار پشاور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

از: جناب مولانا محمد عثمان صاحب

اس سال اجتماع رائے ونڈ کے موقع پر مولانا محمد یونس پالن پوری مدظلہ ابن حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى سے بندہ کی ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات عالمی امور پر گفتگو ہوئی، چلتے چلتے مولانا کی ایک کاپی پر نظر پڑی۔ دریافت کرنے پر بتایا کہ وہ مختلف کتب کے مطالعہ کے دوران جو مفید اور اہم یا نادر بات سامنے آتی اس کو اپنی کاپی میں لکھتے رہتے تاکہ بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

اور یہ ہمارے اکابر اور اہل علم کا طریقہ بھی رہا ہے۔ ورنہ بسا اوقات بہت سی مفید اور اہم باتیں مطالعہ کے دوران آکر گزر جاتی ہیں اور بعد میں یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتی کہ کہاں پڑھیں تھیں۔ اور اس وقت افسوس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لئے کہا گیا ہے۔

”الْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدٌ“^۱

اور یہ مطالعہ کا ذوق بظاہر مولانا کو اپنے والد محترم ”لِسَانُ الدَّعْوَةِ“ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى سے وراثت میں ملا ہے کہ ”الْوَلَدُ سِرًّا لِأَبِيهِ“^۲ اور بندہ نے بارہا حضرت پالن پوری کو دیکھا کہ مطالعہ کے دوران استغراق کی کیفیت ہوتی اور ہمہ تن کتاب کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تفسیر کا حضرت کو انتہائی ذوق تھا۔ ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا: جی چاہتا ہے اب کتب حدیث کو دیکھوں لیکن کیا کروں قرآن کریم ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس میں غوطے کھاتے جاؤ اور موتیاں نکالتے جاؤ، وہ موتیاں نکلتی ہی رہتی ہیں۔ قرآن کریم کے سمندر میں غوطے کھانے سے فرصت نہیں مل رہی کہ حدیث کے سمندر میں غوطے کھاؤں۔

لیکن وہ تفسیر قرآن میں اول درجہ میں تفسیر القرآن بالقرآن (قرآن کریم کی آیات کی تفسیر دوسری آیات سے) دوسرے درجہ میں تفسیر القرآن بالحدیث اور پھر تفسیر قرآن باقوال الصحابہ والتابعین کے قائل اور داعی بھی تھے اور تفسیر بالرائے سے بہت ڈرا کرتے تھے اور اس پر روتے اور لرزتے اور کانپتے دیکھا ہے۔ عربوں کے مجمع میں بھی فرماتے تھے کہ تم کو نصیحت کرتا ہوں اور تم بھی اپنی اولاد کو اور نسلوں کو نصیحت کر دینا کہ قرآن کریم کو حدیث اور صحابہ کے واسطے کے بغیر نہ سمجھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور گمراہ کر دو گے۔

مطالعہ اور کتب بینی کے ذوق و شوق کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ نظام الدین میں بندہ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ کی الماریوں میں کتابیں بھی ہوئی تھیں۔ پلنگ پر بیٹھتے ہوئے رو دیئے اور ان کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بندہ سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مصنفین کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ انہوں نے کتنی محنت

^۱ علم ایک شکار ہے اور لکھنا اس کے لئے بیڑی ہے، یعنی لکھنے سے علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ (محمد امین)

^۲ بیٹا اپنے باپ کا راز یعنی سچا جانشین ہے۔ (محمد امین)

سے یہ کتابیں لکھی ہیں اور آج صرف ان کا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے لیکن مولوی عثمان! ان کو بے کار نہ سمجھنا کہ خواہ مخواہ اتنی کتابیں لکھ دیں اور پھر فرمایا کہ دل میں بھی یہ بات نہ لانا بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی ایک ایک سطر اور ایک ایک مسئلہ و جزئیہ کو انسانوں کی زندگیوں میں زندہ کرے گا۔ اور کر رہا ہے، اور پھر فرمایا، مجھے جینے اور زندہ رہنے کی تمنا صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو ان سب کتابوں کو پڑھ ہی ڈالوں۔

ایک دوسرے موقع پر فرمایا: بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں کا کیا فائدہ؟ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر بخاری و مسلم کو امام بخاری رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى اور امام مسلم رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى لکھ کر ہم پر احسان نہ فرماتے تو ہمیں یہ حدیثیں کیسے پہنچتیں، اسی طرح بقیہ کتب کا حال ہے۔

دعاؤں میں حضرت رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى کا یہ جملہ بار بار کانوں میں گونجتا ہے۔ اے اللہ! قرآن و حدیث کے الفاظ زبان پر جاری فرمادے۔ قرآن و حدیث کی حقیقت دل میں اتار دے۔ قرآن و حدیث کا عمل بدن سے جاری فرمادے۔ قرآن و حدیث کو عالم میں لے کر پھرنے والا بنا دے۔ آمین!

جب کوئی مفید کتاب بتلائی جاتی تو فوراً اس کو خرید کر بھیجے گا حکم فرماتے اور اپنی کتابوں کی الماری میں اس کو رکھتے، کئی بار بندہ سے پاکستان میں چھپی ہوئی کتابیں منگوائیں۔ اور علمی ذوق ہی کا نتیجہ تھا کہ خصوصاً اہل علم و علماء دین و مدارس کے طلباء سے انتہائی محبت اور تواضع و خوش خلقی سے پیش آتے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

لیکن لکھتے وقت کیا کروں ان کی وہ محبت و شفقت، علمی انہماک، تفسیری ذوق، دُعا میں استغراق کی کیفیت اور تضرع و زاری، اُمت کا غم و درد، ان کا روزانہ صبح نظام الدین کا بیان، اور اجتماع رائے و نڈ کے بیانات اور جماعتوں کو رواگئی کی ہدایات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت و جلال کو بیان کرتے وقت مجمع پر سناٹے کا چھا جانا اور دین کے پورے عالم میں زندہ ہونے کی دلوں میں اُمید کا وابستہ ہو جانا اور باطل کی تمام طاقتوں اور قوتوں کا مکڑی کا جالا محسوس ہونا، غریبوں کی ہمدردی و غم و خواری، خوش حال گھرانوں کی فکر، نوجوانوں پر خاص نظر۔ ہر ایک کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا اور اس کی صلاحیت کے استعمال کا مصرف تلاش کرنا، ان کا تواضع و عجز و مسکنت، ان کی سادگی، ان کی نصیحتیں اور ان کا اپنے بارے میں ڈر۔ ان کی فکر آخرت، ان کا قرآن کریم کی آیات سے ہر وقت کے حالات میں رہبری کا لینا۔

ان کی اجتماعی مال میں احتیاط کا حال، ان کی پورے عالم کے حالات سے واقفیت، ارتداد کی خبروں سے بے چین ہو جانا اور فوری طور پر جماعتوں کا وہاں بھیجنا، ان کا پرانے کام کرنے والوں کے جوڑوں میں اُمت پر محنت اور اُمت کی فکر کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ خصوصی تعلق حاصل کرنے اور اپنے رذائل روحانیہ حسد، بغض، کینہ وغیرہ کے دور کرنے پر، اور اجتماعیت کی فکر پر زور دینا۔

ان کا امریکہ اور دوسرے ملکوں کے اوقات نماز کے صحیح کرانے کی فکر، اور فلکیات میں مہارت اور ماہر فلکیات کی غلطیوں پر متنبہ کرنا، ان کی اپنے امیر کی اطاعت ان کے مشورہ کی پابندی، ان کا علماء و مشائخ سے اپنے بیانات میں غلطیوں کی نشاندہی کے لئے پوچھنا اور علماء و مشائخ کا ان کو اطمینان دلانا، اور ان کا دنیا بھر کے علماء و مشائخ کے پاس حتی الامکان ہر سال ہدایا بھیجنا۔

ان کا حضرت مولانا یوسف رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالَى کے بیانات کا اہتمام سے مطالعہ کرنا، ان کا سفر سے پہلے مرکز کے مقیمین

سے مل کر جانا، اور معافی مانگنا، حتیٰ کہ اپنے چھوٹوں سے بھی، ان کے بیان سے ہر طبقہ کا مستفید ہونا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے ہی لئے فرما رہے ہیں۔ ان کا حضرت جی مولانا انعام الحسن رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى کے سامنے انتہائی ادب و تواضع سے پیش آنا اور ان کا بندہ کو یہ فرمانا کہ میں نے حضرت جی رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى کو چوس لیا ہے، ان کا ہر وقت گھڑی کو سامنے رکھ کر ایک ایک لمحہ کو قیمتی بنانا اور وصول کرنا اور اس سلسلہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى کا حوالہ دینا۔

ان کا حضرت شیخ الحدیث رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى سے تعلق اور حضرت شیخ کا اُن سے تعلق، ان کو سرکارِ دو عالم ﷺ کی خوابوں میں بکثرت زیارتوں کا ہونا، ان کی سیرت نبوی پر نگاہ، ان کا صحابہ کرام رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی زندگی اور اقوال سے انفرادی و اجتماعی اصولوں کا استنباط۔ ان کے اپنے شب و روز کے اجتماعی و انفرادی معمولات، ان کا بڑھاپے اور ضعف کی حالت میں مرکز کی ساری مشغولیتوں کے ساتھ حفظِ قرآن کا حضرت جی رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى کی اجازت کے ساتھ کرنا، اُن کا بیان سے پہلے اور بیان کے بعد اہتمام سے حضرت جی رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى کے پاس جانا اور ہر بات میں حضرت جی رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى کی طرف رجوع کرنا۔

ان کا رمضان المبارک میں اعتکاف، ان کے قرآن کریم پڑھ کر سنانے سے مردہ دلوں کا زندہ ہونا۔ اور سخت سے سخت دلوں کا موم ہونا، اور شریعوں، ڈاکوؤں، ظالموں وغیرہ کا ان کی دعوت سن کر توبہ کرنا۔ ان کے بیان میں مضمون کا ارتباط وغیرہ وغیرہ یہ سب پہلو اُمنڈ اُمنڈ کر سامنے آ رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ ان سب پر لکھا جائے، اگر اللہ کے فضل اور توفیق نے دستگیری کی تو اُن کے قرآنی افادات پر لکھنے کا ارادہ ہے۔

﴿قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (سورۃ الطلاق: آیت ۳)

بزرگوں کی سوانح اور واقعات بڑے رہبر ہوتے ہیں۔ حضرت جنید رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى کا قول ہے۔ "الْحِكَايَاتُ جُنْدٌ مِّنْ جُنُودِ اللّٰهِ يُنَبِّتُ اللّٰهُ بِهَا قُلُوبَ اَوْلِيَائِهِ" کہ ان واقعات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کو مضبوط کرتا اور جماتا ہے۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں اور اس پر قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے۔ ﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (سورۃ ہود: آیت ۱۲۰)

ترجمہ: "اور سب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے جس سے تسلی دیں تیرے دل کو۔" امام ابوحنیفہ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى کا قول ہے علماء کے قصے اور ان کے محاسن مجھے فقہ سے بہت زیادہ محبوب ہیں، اس لئے کہ وہ اخلاق اور ادب سکھاتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے۔

﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَبِهٰدِهِمْ اَقْتَدٰى﴾ (سورۃ الانعام: آیت ۹۰)

ترجمہ: "یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے، سو تو چل ان کے طریقہ پر۔"

اور ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولٰٓئِي الْاَلْبَابِ﴾ (سورۃ یوسف: آیت ۱۱۱)

ترجمہ: "البتہ ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔"

مالک بن دینار رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى کا قول ہے۔ الْحِكَايَاتُ تُحْفُ الْجَنَّةِ.

تَرْجَمَةً: ”حکایات و واقعات جنت کے تحفے ہیں۔“

دوسرا قول ہے حکایات زیادہ سے زیادہ بیان کر دو کہ یہ موتی ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ان میں کوئی نادر موتی ہاتھ آجائے۔

سفیان بن عیینہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا قول ہے: ”عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ“
تَرْجَمَةً: ”صلحاء اور نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت برتی ہے۔“

یہ سب باتیں حضرت مولانا محمد عمر صاحب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا نام لکھتے ہی نوک قلم پر آگئیں اور جی چاہ رہا ہے کہ اس پر لکھتا چلا جاؤں لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

مولانا محمد یونس صاحب کی اس کاپی کو دیکھا تو اس میں کتب کے حوالوں کے ساتھ بہت مفید اور اہم مضامین تھے جن کو جمع کرنا ان کے ذوق کی نشانی ہے۔ بندہ نے عرض کیا کہ اس کو چھپوا دیا جائے تو بہتر ہوگا مولانا منع کرتے رہے کہ یہ تو اپنی ذاتی یادداشت کے لئے لکھا ہے لیکن بندہ نے اصرار کیا کہ اگر اس سے دوسروں کو بھرپور فائدہ پہنچ جائے تو کیا حرج ہے اور یہ ہمارے اکابر کا معمول چلا آ رہا ہے۔ کشتول ذریں خزانے وغیرہ کے نام سے وہ اپنا عرق مطالعہ چھپواتے رہے ہیں۔

الحمد للہ ان کے والد صاحب کے تعلق کی وجہ سے بھی انہوں نے میری عاجزانہ درخواست کو قبول کر لیا اور کاپی مجھے دے دی۔ یہ متفرق مضامین کا مجموعہ ہے جس میں باہمی ارتباط تلاش نہ کیا جائے جیسے جیسے کوئی مفید بات سامنے آتی رہے وہ جمع کرتے رہے۔

اس سے جو جس مضمون کا فائدہ اٹھالے وہ اٹھا سکتا ہے اس لئے اس کا نام ”بکھرے موتی“ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اور اس کو ان کے لئے اور ان کے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔ ابھی ایک حصہ اس کا پیش کیا جا رہا ہے آئندہ ان شاء اللہ مزید حصے بھی سامنے آئیں گے جن میں مفید معلومات ہوں گی۔

حق تعالیٰ شانہ بندہ کے لئے بھی اس معمولی سی کوشش کو قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے اور صلحاء اور نیک لوگوں میں اس کی برکت سے شامل فرمائے۔ ”وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ“ اس کی تصحیح اور نظر ثانی کا کام بندہ کے بڑے بھائی مولانا عمر فاروق صاحب زید مجدہ نے کیا ہے۔ اور ہمارے محسن دوست بھائی جاوید ہزاروی اور بھائی جلیل الرحمن اس کی طباعت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

محمد عثمان کراچی

۲۷ رمضان المبارک یوم الثلاثاء بعد الظہر ۱۴۲۳ھ

بمقام حرم مدنی مسجد نبوی مدینہ منورہ



تقریظ

مفسر قرآن، محدث کبیر، فقیہ انفس حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند اور شارح حجۃ اللہ البالغہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

”بکھرے موتی“ میں جناب مکرم مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری نے گلہائے رنگ رنگ چن کر حسین گلدستہ تیار کیا ہے۔ یہ کتاب مولانا زید مجدہم کا کشتول ہے جس میں آپ نے قیمتی موتی اکٹھے کئے ہیں۔ ایک حسین دسترخوان ہے جس پر انواع و اقسام کے لذیذ کھانے چنے گئے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں تفسیری فوائد و نکات ہیں، حدیثی نصح و ارشادات بھی ہیں۔ دعوتی اور تبلیغی چاشنی لئے ہوئے صحابہ اور بعد کے اکابر کے واقعات بھی ہیں جن سے دل جلد اثر پذیر ہوتا ہے۔ نیز ایسی دعائیں بھی شامل کتاب کی گئی ہیں جو گونہ عملیات کا رنگ لئے ہوئے ہیں۔ اس طرح کتاب بہت دلچسپ بن گئی ہے۔

نیز مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند کی نظر ثانی نے اس کی اعتباریت میں اضافہ کیا ہے، گویا کتاب میں چار چاند لگائے ہیں۔ اس لئے امید ہے کہ کتاب لوگوں کے لئے بے حد مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مصنف کے لئے ذخیرہ آخرت بنائیں اور امت کو اس سے فیض یاب فرمائیں۔ والسلام۔

سعید احمد عفا اللہ عنہ پالن پوری

خادم دارالعلوم دیوبند

۱۶ صفر ۱۴۲۶ھ



تقریظ

مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری

استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ؛ أَمَّا بَعْدُ:

مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری قدس سرہ کے بڑے صاحب زادے ہیں، موصوف نے سنہ ۱۳۹۳ھ مطابق سنہ ۱۹۷۳ء میں مظاہر علوم سہارن پور سے علوم متداولہ سے فراغت حاصل کی ہے، طالب علمی کے زمانہ سے آپ کا محبوب مشغلہ اسلاف و اکابر کی کتابوں کا مطالعہ اور پسندیدہ باتوں کو کاپی میں محفوظ کرنا ہے۔

علوم متداولہ سے فراغت کے بعد ایک طویل عرصہ تک والد محترم کے زیر سایہ دعوت و تبلیغ کے کام میں شب و روز لگے رہے، اور والد محترم کے اوصاف و کمالات کو جذب کرتے رہے، جن حضرات نے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری قدس سرہ کے بیانات سنے ہیں اور ان کو قریب سے دیکھا ہے، وہ اس بات کی کھلے دل سے گواہی دیں گے کہ مولانا محمد یونس صاحب زید مجدہم اخلاق و عادات اور اوصاف و کمالات میں عمر ثانی ہیں۔

دعوت و تبلیغ کے کام سے مولانا زید مجدہم جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اَظْهَرَ مِنَ الشَّمْسِ ہے، اور رمضان المبارک میں تراویح کے بعد بمبئی میں موصوف کے جو بیانات ہو۔ تے ہیں ان سے آپ کی علوم قرآن کے ساتھ مناسبت عیاں ہے۔ ہزاروں آدمی اپنے گھروں میں کنکشن صرف مولانا کے بیانات سننے کے لئے رکھتے ہیں۔ اس طرح مردوں کے ساتھ مستورات بھی آپ کے بیانات سے خوب استفادہ کرتی ہیں۔

دوسری طرف مولانا زید مجدہم ان پسندیدہ باتوں کو جو آپ طالب علمی کے زمانہ سے اب تک منتخب و محفوظ فرما رہے ہیں ”بکھرے موتی“ کے نام سے شائع فرما کر پوری امت مسلمہ کو فیض پہنچا رہے ہیں، بلاشبہ یہ کتاب اسم باسٹی ہے، جو خوش قسمت اس کو دیکھتا ہے، ختم کئے بغیر دم نہیں لیتا۔

اس کتاب کے دو حصے نظر ثانی اور مفید اضافوں کے بعد شائع ہو چکے ہیں اور — اب تیسرا حصہ پہلی بار ”مکتبہ شیخ سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ“ سے شائع ہو رہا ہے، اس حصے کے تمام مضامین نہایت قیمتی ہیں، خصوصاً اسماء حسنی کے تعلق سے موصوف نے بڑی کارآمد باتیں جمع کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو امت کے لئے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے! اور موصوف کو اجر عظیم عطا فرمائے! آمین یا رب العالمین!

محمد امین پالن پوری

خادم حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

۱۵/رجب سنہ ۱۴۲۶ھ ہجری

تعارف و تبصرہ

از حضرت مولانا شمس الحق صاحب ندوی زید مجدہم

مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری، دعوت و تبلیغ کے نامور خطیب و واعظ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری (جنہوں نے اپنی پوری عمر دعوت و تبلیغ کے لئے وقف فرمادی تھی، جو حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ کے خاص تربیت یافتہ تھے، اور حضرت جی کی وفات کے بعد تو بڑے اجتماعات کو عموماً مولانا ہی خطاب فرماتے تھے، مولانا کی تقریر بڑی مؤثر اور عام فہم ہوتی تھی، دعا بھی طویل فرماتے تھے، مولانا یونس صاحب انہیں) کے فرزند ارجمند ہیں اور مولانا کی وفات کے بعد اپنے وقت کا بڑا حصہ مرکز نظام الدین میں گزارتے ہیں، مولانا کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ سے بیعت و خلافت کا شرف بھی حاصل ہے جس کی وجہ سے حضرت کی تصنیفات کا بھی ذوق و شوق کے ساتھ مطالعہ فرماتے ہیں، بڑے اجتماعات میں شرکت کا پورا اہتمام رہتا ہے جس وقت یہ سطریں لکھی جا رہی ہیں دو اہم اجتماعات میں شرکت کے بعد اس وقت یعنی ۹ رذی الحجہ کو عشق و سرمستی کے عالم میں عرفات میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب فرمائے یہ ایک دور افتادہ کی دعا ہے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

مولانا اپنی تقاریر میں احادیث شریفہ اور تقاریر اور بزرگوں کے تذکروں میں مذکور مؤثر واقعات و حکایات اور نصائح و حکم کو بیان کرتے، اور سامعین کے دلوں کو گرماتے، اور دینی غیرت و حمیت کو جگاتے ہیں۔ مولانا عرصہ سے ایسے مؤثر واقعات تعلیمات اور بعض ضروری مسائل و فتاویٰ کی بیاض بھی تیار کرتے جاتے ہیں، جو واقعی بکھرے موتیوں کا بڑا خوبصورت و دلکش ہار ہے، جو پڑھنے والے کے دل کو کھینچتا ہے اور روح کو بالیدگی عطا کرتا ہے، خصوصاً رمضان المبارک میں مولانا موصوف کا تراویح کے بعد بمبئی میں دو جگہ وعظ اور تفسیر قرآن پاک بیان کرنے کا معمول ہے۔ جس کا سلسلہ بارہ بجے رات تک جاری رہتا ہے اور اختتام گلوگیر آواز میں طویل دعا پر ہوتا ہے، لوگوں نے دور دور کنکشن لے رکھے ہیں جس سے گھروں میں مستورات بھی شوق کے ساتھ مولانا کے مؤثر وعظ کو سنتی ہیں، ان تقریروں اور بیان میں مولانا انہیں بکھرے موتیوں کو موقع و مناسبت سے زینت بیان و تقریر بناتے جاتے ہیں، جو اب کتابی شکل میں آگئے ہیں، ان بکھرے موتیوں کا بڑا بڑا مفید اور دل کو گرمانے والا ہے، زبان و بیان آسان و رواں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ

اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ (تعمیر حیات - ۲۵ جنوری ۲۰۰۵ء، صفحہ ۲۶)



- ۷ ۱۷ غول بیابانی (بھوتوں) کو دیکھ کر اذان کہنا
- ۸ ۱۸ اذان کے چند اور مواقع
- ۸ ۱۹ ہر انسان کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں بیس فرشتے رہتے ہیں
- ۹ ۲۰ معمولی اکرام مسلم پر سارے گناہ معاف
- ۹ ۲۱ بری موت سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ
- ۹ ۲۲ متکبر کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے
- ۱۰ ۲۳ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر صدقہ کا ثواب
- ۱۰ ۲۴ سلف صالحین کی اپنے دوستوں کو تین نصیحتیں
- ۱۱ ۲۵ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ
- ۱۱ ۲۶ ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ
- ۱۱ ۲۷ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹھی بھر کھجوریں دیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستائیس سال تک کھاتے کھلاتے رہے، یہ دین کی برکت تھی
- ۱۲ ۲۸ عمل مختصر اور ثواب و فائدہ زیادہ
- ۱۲ ۲۹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
- ۱۲ ۳۰ دُعاء
- ۱۳ ۳۱ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے انتقال کے وقت وصیت کرنا
- ۱۳ ۳۲ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ کلمات سکھائے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پانچ کلمات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واسطے سے پوری امت کو ملے
- ۱۳ ۳۳ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو دنیا پر مقدم کر دیا اور پانچ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھے
- ۱۳ ۳۴ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں سجدہ کرنے کیلئے عرش اور کرسی سے بھی افضل جگہ ملی
- ۱۳ ۳۵ دو بیویوں میں انصاف کا عجیب قصہ
- ۱۵ ۳۶ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی احتیاط
- ۱۵ ۳۷ مسلمان پر بہتان باندھنے کا عذاب
- ۱۵ ۳۸ خطوط میں بسم اللہ لکھنا جائز ہے یا ناجائز

- پیش لفظ: مولانا محمد عثمان صاحب مدظلہ العالی iii
- تقریظ: حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری
- دامت برکاتہم vii
- تقریظ: مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری viii
- تعارف و تبصرہ: از حضرت مولانا شمس الحق صاحب ندوی
- زید مجدہم ix
- فہرست مضامین x

فہرست مضامین (جلداول)

- ۱ اسلام کی محنت
- ۲ داعی اپنی اجتماعی فکروں کے ساتھ انفرادی نیکیاں بھی کرتا رہے
- ۳ امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی عجیب فضیلتیں
- ۴ نظر بد دور کرنے کا وظیفہ
- ۵ اللہ کے راستے میں قرآن پڑھنے کی ایک خاص فضیلت
- ۶ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء
- ۷ ایمان اور اسلام کی اللہ کے یہاں قدر ہے، ہر دس سال پر مومن کامل کا بھاء اور قیمت بڑھتی ہے، اور مومن کا درجہ اللہ کے یہاں بڑھتا رہتا ہے
- ۸ خدا کی قدرت
- ۹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ
- ۱۰ مخصوص اعمال جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں
- ۱۱ قرآن کریم کی ایک خاص آیت عزت دلانے والی
- ۱۲ کون سی مخلوق کون سے دن پیدا کی گئی
- ۱۳ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک درہم خرچ کرو اور اللہ کے خزانے سے دس درہم لو
- ۱۴ غمگین کے کان میں اذان دینا
- ۱۵ بد اخلاق کے کان میں اذان دینا
- ۱۶ شیطان کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وقت اذان کہنا

- ۳۹ قرآن کی دو آیتیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمن نے لکھ دیا تھا ۱۵
- ۴۰ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ۱۶
- ۴۱ دُعا کی قبولیت کے لئے مجرب عمل ۱۶
- ۴۲ امت محمدیہ پر تین باتوں کا خوف ۱۶
- ۴۳ ہر بلا سے حفاظت ۱۶
- ۴۴ دشمن سے حفاظت ۱۷
- ۴۵ ایک عجیب واقعہ ۱۷
- ۴۶ رزق میں برکت کے لئے ایک مجرب عمل ۱۷
- ۴۷ بے دین کو دیندار بنانے کا ایک عجیب فاروقی نسخہ ۱۸
- ۴۸ غزوہ بدر میں بے سرو سامانی ۱۸
- ۴۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابوالعاص کا درد بھرا قصہ .. ۱۹
- ۵۰ صالح بیوی ۲۱
- ۵۱ ظلم کی تین قسمیں ۲۱
- ۵۲ اسلام میں عید الفطر کی پہلی نماز ۲۱
- ۵۳ وہ صحابی جس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی اور وہ جنتی ہیں .. ۲۱
- ۵۴ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے ۲۲
- ۵۵ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم نصیحت .. ۲۲
- ۵۶ جب تک باوجود ہو گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے .. ۲۲
- ۵۷ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی عجیب مثال ۲۲
- ۵۸ خدا تعالیٰ کا ایگریمنٹ جو خدا تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے ۲۳
- ۵۹ اعمال اچھے تو حاکم اچھا، اعمال خراب تو حاکم خراب ... ۲۳
- ۶۰ ایک عالمی آفت کا شرعی حکم ۲۳
- ۶۱ کو مینٹری سے دل چسپی رکھنے کی خرابیاں اور گناہ ۲۳
- ۶۲ اللہ اور رسول کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں ۲۵
- ۶۳ نابل کو کوئی عہدہ سپرد کرنا ۲۶
- ۶۴ سورہ انعام کی ایک خاص فضیلت ۲۶
- ۶۵ خدا اور آخرت کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی بڑی سے بڑی آگ بجھا دے گا ۲۶
- ۶۶ علماء کے قلم کی روشنائی اور شہیدوں کے خون کا وزن ۲۶
- ۶۷ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی ہے ۲۶
- ۶۸ مایوس ہو کر دعا مانگنا نہ چھوڑو ۲۷
- ۶۹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کسی رنگ و نسل پر موقوف نہیں . ۲۷
- ۷۰ مسجد اور جماعت ۲۸
- ۷۱ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات الواح موسیٰ میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کی خواہش ۲۹
- ۷۲ کبھی کافر و فاسق کا خواب بھی سچا ہوتا ہے ۳۰
- ۷۳ چلہ کی فضیلت ۳۰
- ۷۴ وہ خوش نصیب صحابی جن کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی .. ۳۰
- ۷۵ ایک اہم نصیحت ۳۱
- ۷۶ انتقال کے وقت ایک صحابی کے رُخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ۳۱
- ۷۷ چند اہم تسبیحات ۳۱
- ۷۸ شیطان کے منادی ۳۲
- ۷۹ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ایک خاص دعا ۳۲
- ۸۰ مناجات عربی ۳۳
- ۸۱ فضائلِ رمضان ۳۳
- ۸۲ عبدالرزاق نامی آدمی کو رزاق کہہ کر پکارنا گناہ ہے ... ۳۳
- ۸۳ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا اثر ۳۵
- ۸۴ نظر بد کی طرح نظرنیک کا اثر بھی برحق ہے ۳۵
- ۸۵ پاؤں کی تکلیف دور کرنے کا نبوی نسخہ ۳۶
- ۸۶ روزی میں برکت کے لئے نبوی نسخہ ۳۶
- ۸۷ پریشانی دور کرنے کے لئے نبوی نسخہ ۳۷
- ۸۸ مسلمانوں کے اجتماعی مال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط ۳۷
- ۸۹ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو یہ دُعا پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے ۳۹

- ۳۶..... ۱۱۲ غریب ساتھی کا صدقہ قبول کرنا
- ۳۷..... ۱۱۳ دنیا کے ہر انار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے
- ۳۷..... ۱۱۴ نیندا گرنہ آئے تو یہ دعاء پڑھیں
- ۱۱۵ حضور اکرم ﷺ کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پانچ نصیحتیں
- ۳۷..... ۱۱۶ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خط
- ۳۸..... ۱۱۷ حضور ﷺ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تین نصیحتیں
- ۳۸..... ۱۱۸ دعاء کی قبولیت کے لئے چند کلمات
- ۳۹..... ۱۱۹ بد بختی کی چار علامتیں
- ۳۹..... ۱۲۰ تبلیغ والوں کو شب جمعہ کی پابندی کرنا
- ۳۹..... ۱۲۱ حاصل تصوف
- ۵۰..... ۱۲۲ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا
- ۵۰..... ۱۲۳ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد
- ۵۰..... ۱۲۴ بیعت کا ثبوت
- ۵۱..... ۱۲۵ دعاء کی وجہ سے بچہ کا زندہ ہو جانا
- ۵۲..... ۱۲۶ مَهْوَرُ الْحُورِ الْعَيْنِ (حوروں کی مہریں)
- ۵۲..... ۱۲۷ مؤمن کے جھوٹے میں شفاء ہے، یہ حدیث نہیں
- ۵۳..... ۱۲۸ ناخن کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں
- ۵۳..... ۱۲۹ بعض جانور جنت میں جائیں گے
- ۵۳..... ۱۳۰ منت ماننے کی شرائط
- ۵۳..... ۱۳۱ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی فضیلت
- ۵۳..... ۱۳۲ احادیث صحیحہ کی تعداد
- ۵۳..... ۱۳۳ جمعہ کے دن ظہر باجماعت پڑھنا
- ۵۵..... ۱۳۴ اسٹیل یا لوہے کی چین استعمال کرنا
- ۵۵..... ۱۳۵ الکحل کا استعمال
- ۵۵..... ۱۳۶ مسواک کے بارے میں عبرت ناک واقعہ
- ۵۶..... ۱۳۷ کرسی پر بیٹھ کر بیان کرنے کی دلیل
- ۵۶..... ۱۳۸ انچاس کروڑ کی روایت
- ۳۹..... ۹۰ قبولیتِ دعاء
- ۳۹..... ۹۱ مشاجراتِ صحابہ کے متعلق ایک اہم ہدایت
- ۴۰..... ۹۲ جمعہ کی نماز کے بعد گناہ معاف کروانے کا ایک نبوی نسخہ
- ۴۰..... ۹۳ وضو کے وقت کی خاص دعاء
- ۴۰..... ۹۴ تین بڑی بیماریوں سے بچنے کا نبوی آسان نسخہ
- ۴۰..... ۹۵ شیطان کا پیشاب انسان کے کان میں
- ۴۱..... ۹۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبر میں منکر تکبیر سے سوال کرنا
- ۴۱..... ۹۷ پانچ جملے دنیا کے لئے، پانچ جملے آخرت کے لئے
- ۴۲..... ۹۸ قید سے چھٹکارے کا نبوی نسخہ
- ۴۲..... ۹۹ مصائب سے نجات اور مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ
- ۱۰۰..... ۱۰۰ چوتھے آسمان کے فرشتے کو مدد کے لئے حرکت میں لانے والی دعاء
- ۴۳..... ۱۰۱ تلاوتِ قرآن کے وقت خاموش نہ رہنا کفار کا شیوہ ہے
- ۴۳..... ۱۰۲ انڈا حلال ہے، اس کی دلیل
- ۴۳..... ۱۰۳ پرانے ہوں تو ایسے ہوں
- ۴۳..... ۱۰۴ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے درمیان نوک جھونک، آپ ﷺ نے دونوں کو نبھالیا، آپ ﷺ نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائی
- ۴۳..... ۱۰۵ پرانے قربانیاں دینے والے ساتھیوں کی اولاد کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، ورنہ نہ نفل عبادت قبول ہوگی نہ فرض
- ۴۵..... ۱۰۶ حضور اکرم ﷺ نے شلوار استعمال کی ہے اس کی دلیل
- ۴۵..... ۱۰۷ وہ خوش نصیب صحابی جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا فرشتے ان کے جنازہ کو لے کر تبوک پہنچے، اور آنحضرت ﷺ نے جنازہ کی نماز تبوک میں پڑھی
- ۴۵..... ۱۰۸ میت پر رونے والی کو عذاب
- ۴۵..... ۱۰۹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاء
- ۴۵..... ۱۱۰ مردوں اور عورتوں کے غصہ اور لڑائی میں فرق
- ۴۶..... ۱۱۱ عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں

- ۶۴ ۱۲۱) برائے حفظ و حافظہ ۵۷
- ۶۵ ۱۲۲) خواص سورہ ضحیٰ (حصول ملازمت کے لئے) ۵۷
- ۶۵ ۱۲۳) امام مالک رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کا واقعہ ۵۸
- ۶۵ ۱۲۴) امام احمد بن حنبل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کا واقعہ ۵۸
- ۶۵ ۱۲۵) حضرت ابراہیم بن ادہم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کا واقعہ ۵۸
- ۶۵ ۱۲۶) حالت مرض کی دعاء ۵۸
- ۶۵ ۱۲۷) ننگے سر کی شہادت قبول نہیں ۵۸
- ۶۶ ۱۲۸) نماز کی برکت ۵۹
- ۶۶ ۱۲۹) بچوں کی بدتمیزی کا سبب اور اس کا علاج ۵۹
- ۶۶ ۱۳۰) تہمت کی سزا ۵۹
- ۶۷ ۱۳۱) صلہ رحمی کے فوائد ۶۱
- ۶۹ ۱۳۲) صلہ رحمی کا ایک عجیب قصہ ۶۱
- ۶۹ ۱۳۳) ذکر و دعاء کے فوائد ۶۱
- ۷۰ ۱۳۴) ابن آدم کی حقیقت ۶۱
- ۷۲ ۱۳۵) اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنے میں انسان کی عافیت ہے ۶۱
- ۷۲ ۱۳۶) ذمہ دار کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ دل میں رکھ کر حقیقت کو معلوم کرنے کے لئے اس کے خلاف کچھ کہے ۶۲
- ۷۱ ۱۳۷) اہل جنت کو کنگن پہنانے کی حکمت ۶۲
- ۷۳ ۱۳۸) جنات کی شرارت سے بچنے کا نبوی نسخہ ۶۲
- ۷۳ ۱۳۹) سفر میں نکل کر صبح و شام مذکورہ دعاء پڑھے ۶۲
- ۷۳ ۱۴۰) ڈوبنے سے بچنے کا نبوی نسخہ ۶۲
- ۷۱ ۱۴۱) قاتلان عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے سامنے حضرت عبداللہ بن سلام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا درد بھرا خطبہ ۶۳
- ۷۴ ۱۴۲) مسجد کے پندرہ آداب ۶۳
- ۷۴ ۱۴۳) جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن اور تعلیم دین کے لئے مخصوص ہوں وہ بھی مسجد کے حکم میں ہیں ۶۳
- ۷۵ ۱۴۴) رفع مساجد کے معنی ۶۳
- ۷۶ ۱۴۵) رفع مساجد کا مفہوم ۶۳
- ۷۷ ۱۴۶) حضرت عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا بڑھیا کی نصیحت سے رونا ۶۳
- ۱۳۹) با وضو مرنے والا بھی شہید ہے ۵۷
- ۱۴۰) ایک مجرب عمل ۵۷
- ۱۴۱) جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ کم از کم تین مرتبہ یہ دعاء پڑھے ۵۸
- ۱۴۲) ایک دعاء جو سات ہزار مرتبہ تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے ۵۸
- ۱۴۳) تکبر کے ایک جملہ نے خوبصورت کو بد صورت اور پست قد کر دیا ۵۸
- ۱۴۴) کسی زمانہ میں کھجور کی گٹھلی جیسے گیہوں کے دانے ہوتے تھے ۵۹
- ۱۴۵) گناہ گاروں کو تین چیزوں کی ضرورت ہے ۵۹
- ۱۴۶) سونے کے دانتوں کا شرعی حکم ۵۹
- ۱۴۷) مد اہنت کرنے والا شہداء میں شامل نہ ہوگا ۶۱
- ۱۴۸) دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کے لئے چھ ”غ“ کے جملے جن سے بچنا ضروری ہے، بچتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ترقی کی امید ہے ۶۱
- ۱۴۹) چالیس سال کی عمر ہو جانے پر مندرجہ ذیل دعاء قرآنی پڑھنے سے امید ہے کہ اولاد صالح ہوگی اور نیک کام کی خاص توفیق ہوگی ۶۲
- ۱۵۰) مناقب ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۶۲
- ۱۵۱) چار ماہ کے بعد اسقاط حمل قتل کے حکم میں ہے ۶۲
- ۱۵۲) آج کل ضبط تولید کے لئے جو دوائیں یا معالجات کئے جاتے ہیں ان کا شرعی حکم ۶۲
- ۱۵۳) دل کی بیماری کو دور کرنے کا نبوی نسخہ ۶۳
- ۱۵۴) دل کی بیماری کے لئے مجرب نسخہ ۶۳
- ۱۵۵) حضور ﷺ پر دعوت کے میدان میں حالت کا اتار چڑھاؤ ۶۳
- ۱۵۶) حضرت عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی چھ نصیحتیں ۶۳
- ۱۵۷) چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت ۶۳
- ۱۵۸) ظالم پر غلبہ ۶۳
- ۱۵۹) غریبی اور خوشحالی ۶۳
- ۱۶۰) ذہن اور حافظہ کے لئے ۶۳

- ۱۸۷ حضرت یحییٰ اُنڈلسی کی امانت داری ۷۷
- ۱۸۸ ایک ہزار جلدوں والی تفسیر ۷۸
- ۱۸۹ التَّحِیَّات سیکھنے کے لئے ایک مہینہ کا سفر ۷۸
- تشہد سیکھنے کے لئے سفر کی وجہ ۷۸
- تشہد نقل کرنے والے صحابہ ۷۹
- ۱۹۰ حضور اکرم ﷺ کے اخلاق ۷۹
- ۱۹۱ مہنگا بیچنے کے لئے غلہ جمع رکھنا مہلک بیماری کا سبب ہے ۸۰
- ۱۹۲ انسان کے تین دوست ۸۰
- ۱۹۳ داعی کی دس صفات ۸۱
- ۱۹۴ توبہ کی حقیقت ۸۱
- ۱۹۵ نیت پر مدار ہے ۸۲
- ۱۹۶ ٹی وی کے ساتھ دفن ہونے کا عبرت ناک واقعہ ۸۲
- ۱۹۷ دل چار قسم کے ہیں ۸۳
- ۱۹۸ تکبر کی دو علامتیں ۸۴
- ۱۹۹ ہر کام میں اعتدال چاہئے ۸۴
- ۲۰۰ سب سے زیادہ قابل رشک بندہ ۸۴
- ۲۰۱ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ ۸۵
- ۲۰۲ ایک مجرب عمل برائے عافیت اہل و عیال ۸۵
- ۲۰۳ طالب دنیا گناہوں سے نہیں بچ سکتا ۸۵
- ۲۰۴ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا سے بچاتا ہے ۸۵
- ۲۰۵ خوش حالی چاہنے والی بیوی کو ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا جواب ۸۶
- ۲۰۶ کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو ۸۶
- ۲۰۷ ریاکاروں کو نصیحت اور رسوائی کی سزا ۸۶
- ۲۰۸ دین کے نام پر دنیا کمانے والے ریاکاروں کو سخت تنبیہ ۸۷
- ۲۰۹ آسان حساب ۸۷
- ۲۱۰ راتوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے جاگنے والوں کا جنت میں بے حساب داخلہ ۸۷
- ۲۱۱ اُمتِ محمدیہ کی بہت بڑی تعداد کا حساب کے بغیر جنت میں داخلہ ۸۸
- ۲۱۲ خزانہ غیب سے دعا پر روزی کا ملنا ۸۸
- ۲۱۳ دولت کی حرص کے بارے میں حضور ﷺ کی نصیحت ۸۹
- ۲۱۴ جو اپنی مصیبت کسی پر ظاہر نہ کرے اس کے لئے بخشش کا وعدہ ۸۹
- ۲۱۵ رسول اللہ ﷺ کا اپنی صاحبزادی کو صبر کی تلقین کرنا ۹۰
- ۲۱۶ خاصانِ خدا عیش و تنعم کی زندگی نہیں گزارتے ۹۱
- ۲۱۷ خادم اور نوکر کا قصور معاف کروا کر چہ وہ ایک دن میں ستر دفعہ قصور کرے ۹۱
- ۲۱۸ دل کی قساوت اور سختی کا علاج ۹۱
- ۲۱۹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت ۹۲
- ۲۲۰ عظمتِ مصطفیٰ ﷺ ۹۲
- ۲۲۱ مقروض کی نماز جنازہ حضور پاک ﷺ نہیں پڑھتے تھے .. ۹۳
- ۲۲۲ خلاف شرع خواہشات کی پیروی ایک قسم کی بت پرستی ہے ۹۳
- ۲۲۳ خاصانِ خدا کے قریبی رشتے دار عام طور سے محروم رہتے ہیں ۹۴
- ۲۲۴ روغنِ زیتون کی برکات ۹۴
- ۲۲۵ اللہ تعالیٰ کے آٹھ نام جو سورج پر لکھے ہوئے ہیں ۹۴
- ۲۲۶ شریعتِ اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ ۹۴
- ۲۲۷ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق حیرت انگیز قصہ ۹۶
- ۲۲۸ دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ۹۶
- ۲۲۹ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی حفاظت سانپ کے ذریعے ۹۷
- ۲۳۰ حضرت محمد ﷺ کے منہ کے لقمہ کی برکت سے بے حیا عورت با حیا بن گئی ۹۸
- ۲۳۱ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت کے واقعات ۹۸

- ۱۱ جنات کی دعوت پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول
اسلام ۱۲۱
- ۱۲ زبور اور تورات میں امت محمدیہ کی صفات ۱۲۱
- ۱۳ ظالم قوم کے ظلم سے بچنے کے لئے نبوی نسخہ ۱۲۱
- ۱۴ امت گنہگار اور رب بخشے والا ہے ۱۲۲
- ۱۵ اللہ تعالیٰ بھی دعوت دیتے ہیں ۱۲۲
- ۱۶ صبر کرنے کا وقت ۱۲۳
- ۱۷ دو جھگڑنے والوں کو دیوار کی نصیحت (ایک عجیب واقعہ) ۱۲۳
- ۱۸ اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ۱۲۳
- ۱۹ والدین کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ۱۲۳
- ۲۰ ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ۱۲۵
- ۲۱ غصہ کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ۱۲۵
- ۲۲ قرض کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ۱۲۵
- ۲۳ اسلام کی ابتداء ۱۲۶
- ۲۴ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشورہ ۱۲۶
- ۲۵ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا خاص سبب ۱۲۶
- ۲۶ اللہ تعالیٰ کی مومن بندے سے عجیب سرگوشی ۱۲۷
- ۲۷ جب لوگ سونا چاندی جمع کرنے لگیں تو درج ذیل کلمات
بکثرت کہا کرو ۱۲۷
- ۲۸ موت کے سوا ہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ ۱۲۷
- ۲۹ جھاڑ پھونک کر کے رقم لینا جائز ہے ۱۲۷
- ۳۰ شکر کرنے والے سائل پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش ۱۲۸
- ۳۱ ریاکاری والے اعمال پھینک دیئے جائیں گے ۱۲۸
- ۳۲ عظیم نور حاصل کرنے کا نبوی نسخہ ۱۲۸
- ۳۳ چار چیزوں میں خیر و برکت اور شفاء ہے ۱۲۹
- ۳۴ جنت کا مومنین کے نام پیغام ۱۲۹
- مظہبین کی چھ صفات و خصال ۱۳۰
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و اخلاق ۱۳۰
- ۳۵ ہاتھ غیب کا پیغام ۱۳۱
- ۳۲ باغی، ڈاکو اور ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ نہیں ۹۹
- ۳۳ چلہ کی اصلیت ۱۰۰
- ۳۴ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھے یا نہیں ۱۰۱
- ۳۵ جمعہ کے دن وفات پانے کی فضیلت ۱۰۱
- ۳۶ انبیاء کے ناموں کی وجہ تسمیہ ۱۰۱
- ۳۷ پانچ آدمی اللہ کی ذمہ داری میں ہیں ۱۰۲
- ۳۸ عیادت کرنے کا عجیب واقعہ ۱۰۲
- ۳۹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا طریقہ ۱۰۳
- ۴۰ آٹھ قسم کے لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا ۱۰۳
- ۴۱ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا خوف خدا ۱۰۳
- ۴۲ ایک نیکی پر جنت میں داخلہ ۱۰۵
- ۴۳ والد کے ساتھ خیر خواہی پر جنت میں داخلہ ۱۰۵
- ۴۴ امانت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا عجیب واقعہ ۱۰۶
- ۴۵ ستائیس سال کے بعد اللہ کے راستے سے واپس آنا ۱۰۶

فہرست مضامین (جلد دوم)

- ۱ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن کا فاقہ ۱۱۰
- ۲ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ پی جانا ۱۱۱
- ۳ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ہندوستانی
راجاؤں کا اسلام قبول کرنا ۱۱۱
- ۴ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی
زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا ۱۱۱
- ۵ غموں سے نجات پانے کا آسان نسخہ ۱۱۲
- ۶ مثالی ماں کی مثالی تربیت ۱۱۲
- ۷ شہداء کی قسمیں ۱۱۳
- ۸ تین بیماریاں جن میں بیمار کی عیادت کرنے یا نہ کرنے میں
کوئی مضائقہ نہیں ۱۱۶
- ۹ حضرت رابعہ بصریہ کا بچپن اور ان کا زہد و تقویٰ ۱۱۷
- ۱۰ قیامت کی بہتر (۷۲) نشانیاں ۱۱۷

- ۱۳۲ ۶۱) ایک جملے پر حجاج بن یوسف کی مغفرت کی امید ۱۳۱
- ۱۳۳ ۶۲) مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے
- ۱۳۳ ۶۳) کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ ۱۳۱
- ۱۳۳ ۶۴) پانچواں نہ بن ۱۳۱
- ۱۳۳ ۶۵) مصیبتوں سے نجات اور حصول مقاصد کے لئے خاص
- ۱۳۳ ۶۶) سات رذائل سے بچو، ایک اچھی صفت پیدا کرو، محبت
- ۱۳۳ ۶۷) عام ہو جائے گی ۱۳۱
- ۱۳۳ ۶۸) ٹی وی پر کرکٹ کا کھیل دیکھنا نامناسب ہے ۱۳۱
- ۱۳۳ ۶۹) اسلام بے جا تکلفات سے روکتا ہے اور سادگی کی
- ۱۳۳ ۷۰) ترغیب دیتا ہے ۱۳۱
- ۱۳۵ ۷۱) اولاد میں بھی برابری کرنی چاہئے ۱۳۱
- ۱۳۵ ۷۲) روزانہ سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے ۱۳۱
- ۱۳۵ ۷۳) ہوائیں آٹھ قسم کی ہوتی ہیں ۱۳۱
- ۱۳۶ ۷۴) عزت کا معیار نسب نہیں، پاکہ تقویٰ ہے ۱۳۱
- ۱۳۶ ۷۵) مؤمن حقیقی ۱۳۱
- ۱۳۶ ۷۶) ایک طرفہ بات سن کر کوئی رائے قائم نہ کی جائے ۱۳۱
- ۱۳۷ ۷۷) غیبت کرنے پر عبرت ناک انجام ۱۳۱
- ۱۳۷ ۷۸) دین میں کامیابی کی ایک عجیب مثال ۱۳۱
- ۱۳۸ ۷۹) سب سے زیادہ عظمت والی آیت ۱۳۱
- ۱۳۸ ۸۰) جان و مال کی حفاظت اور شیطان کے شر سے بچنے کا
- ۱۳۸ ۸۱) بہترین نسخہ ۱۳۱
- ۱۳۹ ۸۲) وضو کے فضائل و برکات ۱۳۱
- ۱۵۱ ۸۳) جنت کے سارے دروازوں کی کنجی ۱۳۱
- ۱۵۱ ۸۴) جھوٹ کی بدبو ۱۳۱
- ۱۵۱ ۸۵) جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں وعید ۱۳۱
- ۱۵۲ ۸۶) عمل کی توفیق سلب ہونے کا سبب ۱۳۱
- ۱۵۲ ۸۷) بات کرنے میں اختصار سے کام لیجئے ۱۳۱
- ۳۶) اپنے رب کی رحمتوں سے مواقع تلاش کرتے رہو ۱۳۱
- ۳۷) انکساری کرنے، اور تکبر کرنے والوں کا انجام ۱۳۱
- ۳۸) تین نجات دینے والی اور تین تباہ کرنے والی چیزیں ۱۳۱
- ۳۹) وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے ۱۳۲
- ۴۰) حسد، بدگمانی اور شگون بد سے بچنے کا نبوی فارمولہ ۱۳۲
- ۴۱) موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ۱۳۲
- ۴۲) موت سے بھاگنے والے کی مثال ۱۳۳
- ۴۳) امت محمدیہ چار جاہلیت کے کام نہ چھوڑے گی (حضور اکرم
- ﷺ کی پیشین گوئی) ۱۳۳
- ۴۴) لا علاج امراض کا علاج ۱۳۳
- ۴۵) اللہ تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں میں بڑی شفاء رکھی ہے ۱۳۳
- ۴۶) خوب صورت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا موجب فتنہ ہے ۱۳۳
- ۴۷) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن ۱۳۵
- ۴۸) میاں بیوی ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھیں ۱۳۵
- ۴۹) چغل خوری کی تباہی ۱۳۶
- ۵۰) بہترین بندے اور بدترین بندے ۱۳۶
- ۵۱) عذاب قبر کا ایک عجیب واقعہ ۱۳۷
- ۵۲) قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ۱۳۷
- ۵۳) کولہاس پہنایا جائے گا ۱۳۷
- ۵۴) اللہ کیلئے ہجرت کرنے والے فقراء کا اعزاز و اکرام ۱۳۸
- ۵۵) امت محمدیہ کے بدترین افراد ۱۳۸
- ۵۶) سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے ۱۳۹
- ۵۷) جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی
- کا حال ۱۳۹
- ۵۸) نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم ۱۴۰
- ۵۹) سب سے زیادہ عظمت والا گھونٹ اور اس کا عظیم اجر
- و ثواب ۱۴۰
- ۶۰) شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے ۱۴۰
- ۶۱) درج ذیل کلمات سیکھ لو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ ۱۴۲

- ۱۵۲ ۸۵) تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قتل کی سازش
- ۱۵۳ ۸۶) دو شریکوں کا عجیب قصہ
- ۱۵۵ ۸۷) دل کو اتنا مٹھو کہ آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جائے
- ۱۵۶ ۸۸) حضرت زاہر رضی اللہ عنہ کا قصہ
- ۱۵۶ ۸۹) جب امت پندرہ قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو
بلائیں نازل ہوں گی
- ۱۵۷ ۹۰) پانچ چیزوں کی محبت پانچ چیزوں کو بھلا دے گی
- ۱۵۷ ۹۱) اندھیری رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سوئی
مل گئی
- ۱۵۸ ۹۲) بے عمل عالم جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا
- ۱۵۸ ۹۳) اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہزار قسم کی مخلوقات پیدا کی
ہیں
- ۱۶۰ ۹۴) دیہاتیوں کے عجیب و غریب سوالات
- ۱۶۱ ۹۵) چھ چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے
- ۱۶۱ ۹۶) نماز کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن کا
پھوڑا ٹھیک ہو گیا
- ۱۶۳ ۹۷) نماز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
کے ارشادات
- ۱۶۳ ۹۸) ایک عورت کا عجیب قصہ
- ۱۶۵ ۹۹) ایک ہزار برس تک جہنم میں یا حَنَّانُ یا مَنَّانُ کہنے والے
کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ
- ۱۶۵ ۱۰۰) سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے کے ساتھ اللہ
تعالیٰ کا معاملہ
- ۱۶۶ ۱۰۱) جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ ایک ایک نیکی کے بدلے
دس دس گناہ مٹا دیتا ہے
- ۱۶۶ ۱۰۲) قیامت کے دن نیک لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے
بدل دیا جائے گا
- ۱۶۶ ۱۰۳) ہر شے سے حفاظت کا بہترین نسخہ
- ۱۶۷ ۱۰۴) ہر غم سے نجات کا بہترین نسخہ
- ۱۰۵) حضرت معاذ اور ان کی اہلیہ میں نوک جھونک
- ۱۰۶) محبت بڑھانے کے لئے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ
بولنا جائز ہے
- ۱۰۷) مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا
شیطانی حرکت ہے
- ۱۰۸) ایک بڑے عالم کی گمراہی کا عبرت ناک واقعہ
- ۱۰۹) بلعم بن باعورا کا قصہ
- ۱۱۰) بلعم کی بتائی ہوئی چال
- ۱۱۱) بلعم کی مثال
- ۱۱۲) ضیاع وقت خودکشی ہے
- ۱۱۳) جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت دو آدمی دیں وہ جنتی
ہے
- ۱۱۴) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے
- ۱۱۵) حلال لقمہ کھاتے رہو اللہ دعا قبول کرے گا
- ۱۱۶) عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو
- ۱۱۷) بیوی کو خوش کرنے کے لئے شوہر کو زینت کرنی چاہئے
- ۱۱۸) مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے
- ۱۱۹) حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے
- ۱۲۰) ظہر کی چار رکعت سنت تہجد کے برابر ہیں
- ۱۲۱) نوجوان کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو
- ۱۲۲) کاپی میں اپنے گناہ تحریر کیجئے پھر توبہ کیجئے
- ۱۲۳) ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہئے
- ۱۲۳) عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی تین نصیحتیں
- ۱۲۵) حضرت ذوالکفل کا عجیب قصہ
- ۱۲۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رُکبانہ پہلوان کی کشتی
- ۱۲۷) بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عجیب و غریب فضیلت
- ۱۲۸) پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارشادات
- ۱۲۹) پڑوسی کے یہاں کھانا بھیجنا

- ۱۳۰ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے ۱۸۲
- ۱۳۱ پڑوسیوں کی دل شکنی سے بچتے رہو ۱۸۳
- ۱۳۲ پڑوسیوں کے بعض متعین حقوق ۱۸۳
- ۱۳۳ پڑوسیوں کے بارے میں دو حدیثیں اور پڑھ لیجئے ۱۸۴
- ۱۳۴ کن حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے ۱۸۵
- ۱۳۵ پیر کے دن چھ خصوصیتیں ۱۸۵
- ۱۳۶ حضور ﷺ کے زمانہ کے درخت بھی حضور ﷺ کو پہچانتے تھے مگر آج کا امتی حضور ﷺ کو نہیں پہچانتا ۱۸۵
- ۱۳۷ ہجری اور اسلامی سنہ کی اہمیت اور اس کی تاریخ ۱۸۶
- ۱۳۸ علم اور مال میں فرق (ایک خط کا جواب) ۱۸۸
- ۱۳۹ مہربان حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ۱۹۰
- ۱ ناسور یا داغ دھبہ کا روحانی علاج ۱۹۰
- ۲ گردے اور پتے کی پتھری کا روحانی علاج ۱۹۰
- ۳ وزی جانور یا دشمن سے حفاظت کا نسخہ ۱۹۰
- ۴ غفلت دور کرنے کا نسخہ ۱۹۰
- ۵ ہر درد سے شفا حاصل کرنے کا نسخہ ۱۹۱
- ۶ تنگی سے نجات حاصل کرنے کا نسخہ ۱۹۱
- ۷ اولاد کے رشتہ کے لئے مجرب عمل ۱۹۱
- ۸ مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ ۱۹۱
- ۹ غصہ کو دور کرنے کا نسخہ ۱۹۱
- ۱۰ دل کی گھبراہٹ اور بیماری سے نجات کا نسخہ ۱۹۲
- ۱۱ لڑکی کے رشتہ کے لئے ایک مجرب عمل ۱۹۲
- ۱۲ تنگی اور پریشانی دور کرنے کا نسخہ ۱۹۲
- ۱۳ عزت حاصل کرنے کا نسخہ ۱۹۲
- ۱۴ نرینہ اولاد کے حصول اور رزق کی تنگی دور کرنے کے لئے بہترین نسخہ ۱۹۲
- ۱۵ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا نسخہ ۱۹۳
- ۱۶ جادو کا روحانی علاج ۱۹۳
- ۱۷ خاوند کو راہ راست پر لانے کا نسخہ ۱۹۳
- ۱۸ ہر جائز مراد کے لئے مجرب عمل ۱۹۳
- ۱۹ عزت، نیک نامی اور صحت بدن کے لئے مجرب عمل ۱۹۴
- ۲۰ کند ذہن کا روحانی علاج ۱۹۴
- ۲۱ ہر رنج و غم دور کرنے کا بہترین نسخہ ۱۹۴
- ۲۲ امتحان وغیرہ میں کامیابی کے لئے مجرب عمل ۱۹۴
- ۲۳ اپنی اور اولاد کی اصلاح کے لئے مجرب عمل ۱۹۴
- ۲۴ دل اور چہرے کو نورانی بنانے کا مجرب عمل ۱۹۵
- ۲۵ بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے کا نسخہ ۱۹۵
- ۲۶ معذور کے لئے بہترین عمل ۱۹۵
- ۲۷ یرقان کا روحانی علاج ۱۹۵
- ۲۸ لاعلاج بیماری اور ظالم کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین نسخہ ۱۹۵
- ۲۹ رزق میں برکت اور کام میں آسانی کے لئے مجرب عمل ۱۹۶
- ۳۰ حج کی استطاعت حاصل کرنے کے لئے مجرب عمل ۱۹۶
- ۳۱ الفت و محبت پیدا کرنے کا بہترین نسخہ ۱۹۶
- ۳۲ ظالم کو دفع کرنے کے لئے جلالی عمل ۱۹۶
- ۳۳ طالب اولاد کے لئے مجرب عمل ۱۹۷
- ۳۴ رزق میں کشادگی اور کاروبار کی ترقی کے لئے مجرب عمل ۱۹۷
- ۳۵ دشمن کے شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ ۱۹۷
- ۳۶ حضور اکرم ﷺ کی زیارت کے لئے مجرب عمل ۱۹۷
- ۳۷ اولاد کی حیات اور مصیبت سے نجات کا نسخہ ۱۹۷
- ۳۸ جنت الفردوس کا وارث بننے کے لئے مجرب عمل ۱۹۸
- ۳۹ محروم الاولاد کے لئے مجرب عمل ۱۹۸
- ۴۰ بیماری یا کمزوری کو دور کرنے کا نسخہ ۱۹۸
- ۴۱ اولاد سے محروم حضرات کے لئے بہترین تحفہ ۱۹۸
- ۴۲ رزق میں کشادگی کے لئے مجرب عمل ۱۹۹
- ۴۳ جنون اور جادو وغیرہ کا شبہ زائل کرنے کا نسخہ ۱۹۹

- ۲۱۲ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ قوی تھا اس کی وجہ ۲۱۲
- ۱۹۹ مفید عمل ۱۹۹
- ۲۱۳ روحانی نسخے ۲۱۳
- ۲۱۴ ایک مریض کی تسلی کے لئے خط، اور شفا کے لئے چودہ ۱۹۹
- ۲۱۵ حضرت عالم گیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکمت سے دین پھیلایا ۱۹۹
- ۲۱۶ ریاست بھوپال کا ایک قابل تقلید دستور ۱۹۹
- ۲۱۷ علم دین سکھانے والے عالم کے آداب و فضائل اور طالب ۲۰۰
- ۲۱۸ علم کا اعزاز و اکرام ۲۰۰
- ۲۱۹ واعظ مدینہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تین اہم نصیحتیں ۲۰۰
- ۲۲۰ تصوف کی حقیقت ۲۰۰
- ۲۲۱ فضائل کی ترغیب و تاکید ۲۰۰
- ۲۲۲ تقویٰ کی تاکید ۲۰۱
- ۲۲۳ اخلاص کی تاکید ۲۰۱
- ۲۲۴ توکل کی ترغیب ۲۰۱
- ۲۲۵ صبر کی تلقین ۲۰۱
- ۲۲۶ رذائل کی قباحت و ممانعت ۲۰۱
- ۲۲۷ تکبر کی مذمت ۲۰۱
- ۲۲۸ ریا کاری کی شناخت ۲۰۲
- ۲۲۹ حسد کی قباحت ۲۰۲
- ۲۳۰ بخل کی برائی ۲۰۲
- ۲۳۱ تصوف اور علم تصوف کی اصطلاحی تعریف ۲۰۲
- ۲۳۲ فقہ کی طرح علم تصوف کا بھی ایک حصہ فرض عین اور پورا ۲۰۲
- ۲۳۳ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے ۲۰۳
- ۲۳۴ صوفی و مرشد کی تعریف ۲۰۴
- ۲۳۵ بیعت سنت، فرض و واجب نہیں ۲۰۴
- ۲۳۶ کشف و کرامات مقصود نہیں ۲۰۵
- ۲۳۷ مقصود صرف اتباع شریعت اور اللہ کی رضا ہے ۲۰۵
- ۲۳۸ باپ اور بیٹے کا عجیب واقعہ ۲۰۷
- ۲۳۹ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ ۲۰۸
- ۲۴۰ بے خوابی کا بہترین علاج ۲۰۸
- ۲۴۱ بخار کی تیزی، غصہ اور ضد کو ختم کرنے کے لئے نہایت ۲۰۸
- ۲۴۲ جھوٹے مقدموں، تہمتوں اور بے عزتی سے نجات پانے ۲۰۸
- ۲۴۳ کانسخہ ۲۰۸
- ۲۴۴ حصول نعمت کے لئے مجرب عمل ۲۰۸
- ۲۴۵ نافرمان اولاد کی اصلاح کے لئے مجرب عمل ۲۰۰
- ۲۴۶ مرتے دم تک صحیح سلامت رہنے کا نسخہ ۲۰۰
- ۲۴۷ اولاد سے محروم حضرات کے لئے بہترین ورد ۲۰۰
- ۲۴۸ نامعلوم اور لاعلاج بیماری سے شفا کے لئے مجرب عمل ۲۰۰
- ۲۴۹ بیٹا یا بیٹی کے نکاح کے لئے بہترین عمل ۲۰۰
- ۲۵۰ ہر مشکل کی آسانی کے لئے مجرب عمل ۲۰۱
- ۲۵۱ استخارہ میں درست بات معلوم کرنے کا نسخہ ۲۰۱
- ۲۵۲ دشمن سے حفاظت کا نسخہ ۲۰۱
- ۲۵۳ سرطان، طاعون اور پھوڑے پھنسی سے بچنے کے لئے ۲۰۱
- ۲۵۴ مجرب عمل ۲۰۱
- ۲۵۵ گناہوں میں بتلا اور غافل کو راہ راست پر لانے کا نسخہ ۲۰۱
- ۲۵۶ مصائب سے نجات کا بہترین نسخہ ۲۰۲
- ۲۵۷ بدنامی سے بچنے کا عمدہ نسخہ ۲۰۲
- ۲۵۸ غم اور پریشانی کو دور کرنے اور مالی حالت کو درست ۲۰۲
- ۲۵۹ کرنے کا نسخہ ۲۰۲
- ۲۶۰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا شاندار نسخہ ۲۰۲
- ۲۶۱ شرک کی ابتدا تصویر سے ہوئی اس لئے تصویر سے بچئے ۲۰۳
- ۲۶۲ رحمت خداوندی سے محرومی ۲۰۴
- ۲۶۳ برے لٹریچر کا اثر ۲۰۴
- ۲۶۴ ماحول کا اثر ۲۰۵
- ۲۶۵ مغربی تہذیب کا اثر ۲۰۵
- ۲۶۶ فضول بحثوں سے احتراز کیجئے ۲۰۷
- ۲۶۷ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ۲۰۸
- ۲۶۸ عجیب قصہ ۲۰۸

- ۲۲۶ شیطان سے حفاظت کا عجیب نسخہ ۱۳
- ۲۲۶ قسطوں میں زیادہ قیمت پر فروخت کرنا جائز ہے ۱۵
- ۲۲۶ ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ صلح کرائے گا ۱۶
- ۲۲۷ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا عجیب قصہ ۱۷
- ۲۲۸ بیوی کیسی ہونی چاہئے ۱۸
- ۲۲۹ کام کاج سویرے شروع کروان شاء اللہ برکت ہوگی ۱۹
- ۲۰ کسی قوم کا سردار اگر تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہئے ۲۲۹
- ۲۱ دنیا کی تکلیف میں پانچ چیزیں بہت سخت ہیں ۲۵۱
- ۲۲ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ۲۵۱
- ۲۳ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے اس کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے ۲۵۲
- ۲۳ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے گناہوں سے محفوظ رہو گے ۲۵۳
- ۲۵ شب معراج میں فرشتوں نے پچھنا گانے کی تاکید فرمائی تھی مگر آج لوگوں نے اسے بالکل چھوڑ دیا ہے ۲۵۳
- ۲۶ جنات کے شر سے بچنے کا بہترین نسخہ ۲۵۳
- ۲۷ جہنم کی آگ سے بچنے کا بہترین نسخہ ۲۵۳
- ۲۸ ترک خواہش آدمی کو امیر بنا دیتی ہے اور خواہش کی پیروی امیر کو امیر بنا دیتی ہے ۲۵۳
- ۲۹ ایک عورت نے اپنا خواب حضور ﷺ کے سامنے بیان کیا ۲۵۵
- ۳۰ کھانے میں شیطانی تصرفات کے واقعات حقیقت پر مبنی ہیں ۲۵۶
- ۳۱ سورہ بقرہ کی اخیر دو آیتوں کی عجیب و غریب فضیلت ۲۵۷
- ۳۲ مسلمان کو کپڑا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے ۲۵۸
- ۳۳ قرآن کی ایک دعا جس کے ہر جملے کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "میں نے قبول کیا، اچھا میں نے دیا" ۲۵۸
- ۲۲۹ چار صفتیں پیدا کیجئے ۲۲۹
- ۲۲۹ دو سو کنوں کا تقوی ۲۲۹
- ۲۳۱ سوکن کا سبق آموز خط ۲۳۱
- ۲۳۱ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین عجیب سوال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب جواب ۲۳۲
- ۲۳۲ اُمّ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ ﷺ سے عجیب و غریب سوال ۲۳۳
- ۲۳۳ ایک دیہاتی کا نہایت عمدہ اور قابل تعریف سوال اور حضور اکرم ﷺ کا جواب ۲۳۳
- ۲۳۵ حمد باری تعالیٰ ۲۳۵
- ۲۳۷ مناجات باری تعالیٰ ۲۳۷
- ۱ پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ ۲۳۹
- ۲ زبان کی تیزی کا نبوی علاج ۲۳۹
- ۳ نیت میں بھی اجر ہے ۲۳۹
- ۴ سب سے زیادہ محبوب عمل ۲۳۹
- ۵ بازار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے ۲۴۰
- ۶ جنات کے شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ ۲۴۰
- ۷ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ ۲۴۰
- ۸ شادی سادی ہونی چاہئے ۲۴۰
- ۹ ایک تاریخی شادی ۲۴۱
- ۱۰ آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کیجئے اللہ مسکرا کر معاف کر دیں گے ۲۴۳
- ۱۱ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کے تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھنے کا معمول تھا ۲۴۳
- ۱۲ چند نصیحت آموز اشعار ۲۴۳
- ۱۳ فتنوں سے نہیں بلکہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگنی چاہئے ۲۴۵

- ۲۶۸ تھے لکھا کہ تم خود مجنون ہو گئے جبکہ تم مجنوںوں کے معالج
- ۲۶۹ ٹوٹ پڑا
- ۲۶۹ خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے
- ۲۷۰ کیا عورتیں مکرو فریب کی پیکر ہیں؟
- ۲۷۰ دین میں زیادہ باریکیاں نکالنا کس کے لئے مناسب ہے
- ۲۷۰ اور کس کے لئے نامناسب
- ۲۷۰ ایک پیچیدہ مقدمہ اور اس کا فیصلہ
- ۲۷۱ یہودیوں کے شر سے بچنے کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام
- ۲۷۱ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی
- ۲۷۱ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مؤمن ایک آنت
- ۲۷۲ میں کھاتا ہے
- ۲۷۲ فتنوں کے دور میں امت کو کیا کرنا چاہئے
- ۲۷۲ زبان کا عالم دل کا جاہل اس امت کے لئے خطرناک
- ۲۷۳ ہے
- ۲۷۳ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کا عجیب قصہ
- ۲۷۳ ایک دینی پیشوا کی ایک گناہ کی وجہ سے گھر بیٹھے رسوائی
- ۲۷۳ ایک دیہاتی کے پچیس سوالات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۷۵ کے جوابات
- ۲۷۷ اسماء حسنیٰ کا تذکرہ
- ۲۷۸ اسماء حسنیٰ پڑھنے والوں کے لئے اہم ہدایات
- ۲۷۹ صفات خداوندی کا جاننا کیوں ضروری ہے؟
- ۲۸۰ اسماء حسنیٰ کی تعداد اور ان کو یاد کرنے کا عظیم ترین فائدہ
- ۲۸۰ ترمذی شریف کی روایت اور اس کا ترجمہ
- ۲۸۳ اسماء حسنیٰ کے معانی اور خواص
- ۲۸۳ ① اللہ کے معنی اور اس کے خواص
- ۲۸۳ ② الرّحمن کے معنی اور اس کے خواص
- ۳۳) مرگی کی بیماری پر صبر کرنے والی خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۵۹ کی بشارت
- ۳۵) قبر سے آواز آئی کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! خدا نے مجھے
- ۲۵۹ دونوں جنتیں بخشی ہیں
- ۳۶) دنیا قیامت کے دن خطرناک بڑھیا کی شکل میں لائی
- ۲۶۰ جائے گی
- ۳۷) یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں؟
- ۲۶۰ بے حقیقت نام
- ۳۸) بری صحبت کا انجام
- ۲۶۱ نماز جنازہ سیکھو اور پڑھو
- ۲۶۲ نماز کب گناہوں سے روکتی ہے؟
- ۳۱) جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان
- ۲۶۲ قدم نہیں رکھ سکتا
- ۳۲) ایک دعا جس کا ثواب اللہ نے چھپا رکھا ہے
- ۲۶۵ جامعیت کی رکاوٹ دور کرنے کے لئے مجرب عمل
- ۳۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیوں ملا؟
- ۲۶۵ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال و
- ۳۶) اقوال
- ۱) مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس
- ۲۶۶ کا حساب نہیں لیتا
- ۲) صرف ایک قلم لوٹانے کے لئے ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۲۶۶ نے سینکڑوں میل کا سفر کیا
- ۳) مسلمان کے دل کو اچانک خوش کرو اللہ تعالیٰ آپ کے
- ۲۶۶ گناہ بخش دے گا
- ۴) باخبر ہو کر بے خبر ہونا، عبداللہ مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
- ۲۶۷ چھپی ہوئی نیکی
- ۵) ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی لوگوں کو اپنے خرچے سے
- ۲۶۸ حج کراتے تھے
- ۶) ابن ہبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھی کو درد بھرا خط

۲۹۹..... ۳۲) الْخَبِيرُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۸۵..... ۳) الرَّحِيمُ کے معنی اور اس کے خواص
۲۹۹..... ۳۳) الْحَلِيمُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۸۵..... ۴) الْمَلِكُ کے معنی اور اس کے خواص
۲۹۹..... ۳۴) الْعَظِيمُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۸۶..... ۵) الْقُدُّوسُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۰..... ۳۵) الْعَفُورُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۸۶..... ۶) السَّلَامُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۰..... ۳۶) الشَّكُورُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۸۷..... ۷) الْمُؤْمِنُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۱..... ۳۷) الْعَلِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	۲۸۸..... ۸) الْمُهَيَّبُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۱..... ۳۸) الْكَبِيرُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۸۸..... ۹) الْعَزِيزُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۱..... ۳۹) الْحَفِيفُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۸۸..... ۱۰) الْجَبَّارُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۲..... ۴۰) الْمُقِيتُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۸۹..... ۱۱) الْمُتَكَبِّرُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۲..... ۴۱) الْحَسِيبُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۸۹..... ۱۲) الْخَالِقُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۳..... ۴۲) الْجَلِيلُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۰..... ۱۳) الْبَارِيُّ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۳..... ۴۳) الْكَرِيمُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۰..... ۱۴) الْمُصَوِّرُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۳..... ۴۴) الرَّقِيبُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۰..... ۱۵) الْغَفَّارُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۳..... ۴۵) الْمُجِيبُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۱..... ۱۶) الْقَهَّارُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۳..... ۴۶) الْوَاسِعُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۱..... ۱۷) الْوَهَّابُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۵..... ۴۷) الْحَكِيمُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۲..... ۱۸) الرَّزَّاقُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۵..... ۴۸) الْوَدُودُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۳..... ۱۹) الْفَتَّاحُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۵..... ۴۹) الْمَجِيدُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۳..... ۲۰) الْعَلِيمُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۶..... ۵۰) الْبَاعِثُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۴..... ۲۱) الْقَابِضُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۶..... ۵۱) الشَّهِيدُ کے معنی اور خواص	۲۹۴..... ۲۲) الْبَاسِطُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۶..... ۵۲) الْحَقُّ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۵..... ۲۳) الْخَافِضُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۷..... ۵۳) الْوَكِيلُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۵..... ۲۴) الرَّافِعُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۷..... ۵۴) الْقَوِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۶..... ۲۵) الْمُعِزُّ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۸..... ۵۵) الْمُتَبِينُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۶..... ۲۶) الْمُدِلُّ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۸..... ۵۶) الْوَلِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۷..... ۲۷) السَّمِيعُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۹..... ۵۷) الْحَمِيدُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۷..... ۲۸) الْبَصِيرُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۰۹..... ۵۸) الْمُحْصِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۷..... ۲۹) الْحَكَمُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۱۰..... ۵۹) الْمُبْدِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۸..... ۳۰) الْعَدْلُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۱۰..... ۶۰) الْمُعِيدُ کے معنی اور اس کے خواص	۲۹۸..... ۳۱) اللَّطِيفُ کے معنی اور اس کے خواص

۳۲۲ ۹۰ الْمَغْنَبِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۰ ۶۱ الْمُحْبَبِيُّ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۳ ۹۱ الْمَنَاعُ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۱ ۶۲ الْمُمَيَّتُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۳ ۹۲ الْمَضَارُّ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۱ ۶۳ الْحَيُّ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۴ ۹۳ النَّافِعُ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۲ ۶۴ الْقَبِيحُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۴ ۹۴ النُّورُ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۲ ۶۵ الْوَاوَجِدُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۵ ۹۵ الْهَادِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۳ ۶۶ الْمَاجِدُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۵ ۹۶ الْبَدِيعُ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۳ ۶۷ الْوَاوَجِدُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۶ ۹۷ الْبَاقِيُّ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۳ ۶۸ الْأَحَدُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۶ ۹۸ الْوَارِثُ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۴ ۶۹ الصَّمَدُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۶ ۹۹ الرَّشِيدُ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۴ ۷۰ الْقَادِرُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۷ ۱۰۰ الصَّبُورُ کے معنی اور اس کے خواص	۳۱۵ ۷۱ الْمُقْتَدِرُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۸ کہر خاتمہ سب کا ایمان پر	۳۱۵ ۷۲ الْمُقَدِّمُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۲۹ آپ ﷺ کی ہوگی سب کو ضرورت	۳۱۵ ۷۳ الْمُؤَخَّرُ کے معنی اور اس کے خواص

فہرست مضامین (جلد چہارم)

۳۳۰ ۱ آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش	۳۱۶ ۷۴ الْأَوَّلُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۳۰ ۲ کریم و شریف شوہر بیویوں کے ناز و نخرے برداشت کرتے ہیں	۳۱۶ ۷۵ الْآخِرُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۳۰ ۳ امت کے لئے معافی کی دعا کیجئے سارے مسلمانوں کے برابر نیکیاں ملیں گی	۳۱۷ ۷۶ الظَّاهِرُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۳۲ ۴ شیطان کے پندرہ دشمن	۳۱۷ ۷۷ الْبَاطِنُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۳۳ ۵ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے	۳۱۸ ۷۸ الْوَالِيُّ کے معنی اور اس کے خواص
۳۳۳ ۶ متکبرین کا انجام	۳۱۸ ۷۹ الْمُتَعَالِيُّ کے معنی اور اس کے خواص
۳۳۳ ۷ سمندر میں گم شدہ سوئی دعا کی برکت سے مل گئی	۳۱۸ ۸۰ الْبَرُّ کے معنی اور اس کے خواص
۳۳۳ ۸ خواتین اپنے گھر کی زینت بن کر زندگی گزاریں	۳۱۹ ۸۱ التَّوَابُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۳۶ ۹ جو عورت آنکھ کونہ لگے وہ دل کو کیا لگے گی	۳۱۹ ۸۲ الْمُنتَقِمُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۳۷ ۱۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ	۳۲۰ ۸۳ الْعَفْوُ کے معنی اور اس کے خواص
۳۳۷ ۱۱ موت کا آنا جتنا یقینی ہے آدمی اس سے اتنا ہی غافل	۳۲۰ ۸۴ الرَّوْفُ کے معنی اور اس کے خواص
	۳۲۰ ۸۵ مَالِكُ الْمَلِكِ کے معنی اور اس کے خواص
	۳۲۱ ۸۶ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کے معنی اور اس کے خواص
	۳۲۱ ۸۷ الْمُقْسِطُ کے معنی اور اس کے خواص
	۳۲۱ ۸۸ الْجَامِعُ کے معنی اور اس کے خواص
	۳۲۲ ۸۹ الْعَنِيُّ کے معنی اور اس کے خواص

- ۳۵۶ اپنے شوہر کی ناشکری کرنا ۲
- ۳۵۶ عورتوں میں آپ ﷺ کا وعظ ۳۱
- ۳۵۸ میاں بیوی رفیق بنیں، فریق نہیں ۳۲
- ۳۵۹ پڑوسی کے شر سے بچنے کا نبوی نسخہ ۳۳
- ۳۶۰ ہوتا ہے... ۳۳
- ۳۶۱ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ... ۳۴
- ۳۶۱ لوگوں کے عیب نہ ٹٹو لو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا... ۳۵
- ۳۶۱ ایک نوجوان صحابی کی حضور ﷺ سے عجیب محبت... ۳۶
- ۳۶۲ جنت کی نعمتوں اور بکھرے موتیوں کا تذکرہ... ۳۷
- ۳۶۲ جنت میں پردے گر گئے، شام ہو گئی جنت میں پردے... ۳۸
- ۳۶۵ ہٹ گئے، صبح ہو گئی... ۳۹
- ۳۶۵ جنت میں نوجوان کنواری لڑکیوں کی بھی بارش ہوگی... ۴۰
- ۳۶۶ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں... ۴۱
- ۳۶۷ جنت میں چھ چیزیں نہ ہوں گی... ۴۲
- ۳۶۷ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنتیوں کی دھوم دھام کے متعلق عجیب و غریب آٹھ سوالات اور آنحضرت ﷺ کے جوابات... ۴۳
- ۳۶۷ جنت میں حوروں کی دھوم دھام حور نازک، نورانی، ناز اور کرشمہ والی ہوگی... ۴۴
- ۳۶۸ جنت کی عورتیں اپنے خاوند کا دل مٹھی میں رکھیں گی... ۴۵
- ۳۶۹ آئیے! جنت عدن کی سیر کریں جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پانچ ہزار فرشتے ہیں... ۴۶
- ۳۷۰ عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی، مزے لوٹنے کے دن آگے جو چاہو مانگو پاؤ گے آئیے! طوبی درخت اور جنت کی سیر کریں... ۴۷
- ۳۷۲ عبرت کی باتیں... ۴۸
- ۳۷۲ جہالت کی نحوست... ۴۹
- ۳۷۶ بڑھا پاؤ فادار ہوتا ہے انسان کن کن ایشیوں سے... ۵۰
- ۳۳۹ ہے... ۱
- ۳۳۹ اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہئے... ۱۲
- ۳۴۰ لایعنی باتوں سے پرہیز کیجئے... ۱۳
- ۳۴۱ توکل کی حقیقت... ۱۴
- ۳۴۱ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ سے تین چیزیں مانگیں... ۱۵
- ۳۴۲ حضور ﷺ کا بچوں کے ساتھ عجیب معاملہ... ۱۶
- ۳۴۲ آنحضرت ﷺ کی چند اہم نصیحتیں... ۱۷
- ۳۴۲ اللہ کے حق کی حفاظت کرو... ۱
- ۳۴۳ صرف خدا سے مانگو... ۲
- ۳۴۳ صرف اللہ سے مدد مانگو... ۳
- ۳۴۳ مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی... ۴
- ۳۴۳ مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی... ۵
- ۳۴۳ امام بخاری اور امیر بخاری کا واقعہ... ۱۸
- ۳۴۳ مولانا روم کے والد اور بادشاہ کا واقعہ... ۱۹
- ۳۴۵ قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کا حشر... ۲۰
- ۳۴۶ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوروں سے نکاح... ۲۱
- ۳۴۷ بے نمازی کی نحوست... ۲۲
- ۳۴۷ ماں کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا... ۲۳
- ۳۴۸ پہلوان امام بخش کا قصہ... ۲۴
- ۳۴۸ چنگیز خاں اور سکندر اعظم کی قبریں کہاں ہیں؟... ۲۵
- ۳۴۸ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نورانی ارشادات... ۲۶
- ۳۴۹ حکم رسول ﷺ پر عمل کرنے کا پھل... ۲۷
- ۳۴۹ قرآن پر عمل کرنے اور اس سے روگردانی کرنے والوں کا انجام... ۲۸
- ۳۴۹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقیر کو مال بھی دیتی تھیں اور دعا بھی... ۲۹
- ۳۵۵ عورتوں کی کمزوری... ۳۰
- ۳۵۵ لعنت کا جملہ کثرت سے زبان پر جاری ہو جانا... ۱

۳۹۱	۵۵ پریشانیوں سے نجات اور رزق میں برکت کے لئے	۳۷۷	گزرتا ہے
۳۹۱	۵۶ آسان نبوی نسخہ	۳۷۷	۱ حلال مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ
۳۹۱	۵۷ بسم اللہ کے خواص	۳۷۷	میں رکھ کر پالتے ہیں
۳۹۳	۵۷ ایک یتیم بچے کا درد بھرا قصہ	۳۷۸	۵۲ حضرت لقمان کی نصیحتیں
۳۹۵	۵۸ قیامت کے دن صلہ رحمی کی رانیں ہرن کی رانوں کی طرح ہوں گی	۳۷۸	۵۳ دیندار فقراء جنت کے بادشاہ
۳۹۶	۵۹ حضرت جبرئیل <small>علیہ السلام</small> نے حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کو پریشانیوں سے نجات کی دعا سکھلائی	۳۷۹	۵۴ دعا مانگنے کے آداب
۳۹۶	۶۰ گھر کے ملازم اور پڑوسیوں کے شر سے بچنے	۳۷۹	۱ دعا صرف خدا تعالیٰ سے مانگنی چاہئے
۳۹۸	۶۱ عورت کا حسن کردار روح کی پاکیزگی ہے	۳۸۰	۲ ناجائز اور نامناسب باتوں کی دعا نہ مانگو
۴۰۰	۶۲ غصہ پی جائے جو کسی حور چاہئے لے لیجئے	۳۸۰	۳ دعا اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہئے
۴۰۰	۶۳ حبیب اپنے حبیب کو عذاب نہیں کرتا	۳۸۱	۴ دعا پوری توجہ اور حضور قلب سے مانگنی چاہئے
۴۰۰	۶۴ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کھینچ لیتا ہے	۳۸۱	۵ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگنی چاہئے
۴۰۰	۶۵ یہ قندیل حیا یارب! رہے فانوس کے اندر	۳۸۱	۶ دعا چپکے چپکے آواز سے مانگنی چاہئے
۴۰۱	۶۶ خلوت کے گناہوں کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے	۳۸۲	۷ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کیجئے یا نیک کام کا واسطہ دے کر دعا کیجئے
۴۰۱	۶۷ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں اور ایک آدمی دوزخ میں گیا	۳۸۲	۸ اچھے کاموں کی طرف سبقت اور حرام کاموں سے پرہیز کیجئے
۴۰۱	۶۸ عاشورہ کے دن پیش آنے والے اہم واقعات	۳۸۳	۹ اللہ تعالیٰ سے برابر دعا مانگتے رہو
۴۰۲	۶۹ حضور اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے حضرت تمیم داری سے فرمایا: اگر میری لڑکی ہوتی تو تجھے اپنا داماد بنا لیتا	۳۸۳	۱۰ دعا قبول نہ ہو پھر بھی دعا مانگتے رہو
۴۰۳	۷۰ اللہ کا وعدہ ہے	۳۸۵	۱۱ دعا کے وقت ظاہر و باطن پاک صاف ہونا چاہئے
۴۰۳	۷۱ بیس اہم نصیحتیں	۳۸۵	۱۲ پہلے اپنے لئے پھر دوسروں کے لئے دعا کیجئے
۴۰۴	۷۲ سانپ بچھو وغیرہ سے بچنے کی نبوی دعا	۳۸۵	۱۳ امام کو جامع اور جمع کے صیغوں کے ساتھ دعا مانگنی چاہئے
۴۰۴	۷۳ پیشاب کی بندش اور پتھری کا نبوی علاج	۳۸۶	۱۴ دعا میں تنگ نظری سے پرہیز کیجئے
۴۰۵	۷۴ ہر بلا سے حفاظت کا نبوی نسخہ	۳۸۶	۱۵ دعا میں بہ تکلف قافیہ بندی سے پرہیز کیجئے
۴۰۵	۷۵ ایک چیونٹی کی دعا سے سلیمان <small>علیہ السلام</small> کو پانی ملا	۳۸۶	۱۶ دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور صلوة و سلام سے کیجئے
۴۰۵	۷۶ درد وغیرہ دور کرنے کا نبوی نسخہ	۳۸۷	۱۷ قبولیت دعا کے خاص اوقات اور حالات
		۳۸۸	۱۸ قبولیت دعا کے مخصوص مقامات
		۳۸۸	۱۹ منقول دعاؤں کا اہتمام کیجئے
		۳۸۹	۲۰ چند جامع دعائیں

- ۱۱۷ معمولی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے ۲۳۷
- ۱۱۸ ایک بیوہ کا عجیب قصہ ۲۳۷
- عجیب وصیت ۲۳۸
- ۱۱۹ مناجات ۲۳۹
- ۱۲۰ اللہ تعالیٰ جب کسی طالب علم یا عالم سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لئے جنت میں شہر آباد کر دیتا ہے ۲۳۹
- ۱۲۱ امام مالک کی صاحبزادیوں کا علمی معیار ۲۴۰
- ۱۲۲ ہر فکر و پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا نبوی نسخہ .. ۲۴۳
- ۱۲۳ قیامت کے دن تنگی سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ ۲۴۳
- ۱۲۴ زبان اچھی بھی ہے اور بری بھی ۲۴۳
- ۱۲۵ مرد تین قسم کے ہوتے ہیں ۲۴۴
- ۱۲۶ پریشانی اور تنگدستی دور کرنے کا نبوی علاج ۲۴۴
- ۱۲۷ دل کی سختی دور کرنے کا نبوی علاج ۲۴۴
- ۱۲۸ ایک دینی بہن پر تہمت لگی رجم کا حکم ہو گیا مگر اللہ نے اپنی قدرت سے اسے بچا لیا ۲۴۵
- ۱۲۹ ابن مسعود کے گھر سے تہجد کے وقت ایک خاص آواز آتی تھی ۲۴۵
- ۱۳۰ ایک شرابی کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ۲۴۵
- ۱۳۱ آپ ڈراؤنا خواب دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو مندرجہ ذیل نبوی نسخہ استعمال کریں ۲۴۶
- ۱۳۲ کعبہ پر پردے کی ابتداء کیسے ہوئی؟ ۲۴۷
- ۱۳۳ ہر غم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین حضری نسخہ ۲۴۷
- ۱۳۴ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کا تذکرہ ۲۴۹
- ۱۳۵ پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو قرآن سے ثابت ہے ۲۵۰
- ۱۳۶ کسی کا نام لے کر سلام کرنا قیامت کی علامت ہے ... ۲۵۱
- ۱۳۷ بنی امیہ کے بعض مکانات میں چاندی کا ایک ڈبہ ملا جس پر سونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا ”ہر بیماری سے شفا اس ڈبہ میں ہے“ ۲۵۱
- ۱۳۸ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ تین سلوک کریں ان شاء اللہ اولاد کبھی ناراض نہ ہوگی ۲۵۲
- ۱۳۹ سلطان ملک شاہ کا مثالی انصاف ۲۵۲
- ۱۴۰ قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے بیان میں قسمیں کھانے سے لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں مگر روحانیت ختم ہو جاتی ہے ۲۵۳
- ۱۴۱ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا ۲۵۴
- ۱۴۲ امتحان عاشق کا ہوتا ہے منافق کا نہیں ۲۵۴
- ۱۴۳ دین کے کام میں آؤ نہیں دیا جاتا بلکہ ماحول بنایا جاتا ہے ۲۵۶
- ۱۴۴ قیامت کے دن ہر حاکم کی گردن میں طوق ہوگا ۲۵۷
- ۱۴۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت فرمایا ۲۵۷
- ۱۴۶ قیامت کے دن گنہگار کی آنکھ تین میل لمبی اور تین میل چوڑی ہوگی ۲۵۷
- ۱۴۷ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش ۲۵۸
- ۱۴۸ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ۲۵۸
- ۱۴۹ واقعہ کی تفصیلات امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ۲۵۹
- ۱۵۰ بے نظیر عزیمت و استقامت ۲۶۰
- ۱۵۱ امام احمد کا کارنامہ اور اس کا صلہ ۲۶۱
- ۱۵۲ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قمیص کو دھو کر اس کا پانی پیا ۲۶۲
- ۱۵۳ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: یہ میرا چہرہ ہے تو جی بھر کے دیکھ لے ۲۶۲
- ۱۵۴ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کی حفاظت فرمائی ۲۶۲

فہرست مضامین (جلد پنجم)

۱ سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی ۲۶۳

- ۲) سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی ۴۶۳
- ۳) سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی ۴۶۳
- ۴) سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی ۴۶۳
- ۵) نماز عشاء کی فرضیت ۴۶۵
- ۶) ایک مچھیرے کا درد بھرا قصہ — جیسی کرنی ویسی بھرنی — ظلم سے بچئے ۴۶۶
- ۷) اللہ کے حکم سے مومنین کے دلوں سے تمام غموں کو نکال دینے والا عجیب فرشتہ ۴۶۷
- ۸) بعض وحشی جانوروں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ۴۶۷
- ۹) حاکم کے شر سے بچنے کا مجرب نسخہ ۴۶۸
- ۱۰) مندرجہ ذیل آیات سیکھنے دل و دماغ کے سکون کے لئے پڑھ کر دم کریں ۴۶۸
- ۱۱) دل رو رہا ہے میرا مگر آنکھ تر نہیں ۴۶۹
- ۱۲) تیری رحمت تو ہر ایک پر عام ہے ۴۶۹
- ۱۳) اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ﴿۱﴾ کا جملہ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں ۴۶۹
- ۱۴) اولاد بے گناہ و خطا ہو جائے تو قطع تعلق کے بجائے ان کی اصلاح کی فکر کرنا چاہئے ۴۷۱
- ۱۵) رات کے وقت گھر میں سورہ واقعہ پڑھ لیجئے فائدہ نہیں آئے گا ۴۷۱
- ۱۶) خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ایک بچہ کا گہوارہ میں بولنا ۴۷۲
- ۱۷) خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ایک اور بچہ کا گہوارہ میں بولنا ۴۷۳
- ۱۸) انیس (۱۹) اہم نصیحتیں ۴۷۳
- ۱۹) گنہگار قابل رحم ہیں نہ کہ قابل حقارت ۴۷۴
- ۲۰) حضرت علیہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اپنی آبرو کا عجیب صدقہ کیا ۴۷۴
- ۲۱) مسلمانوں کی پستی کے اسباب ۴۷۵
- ۲۲) نافرمان اولاد اور والدین کے حقوق ۴۷۷
- ۲۳) ایک اہم نصیحت — مجلس میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنئے ۴۷۹
- ۲۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ۴۷۹
- ۲۵) پانچ (۵) اہم نصیحتیں ۴۸۰
- ۲۶) حضرت عبداللہ بن سلام کا عجیب خواب اور اس کی تعبیر ۴۸۰
- ۲۷) دینار کو دینار کیوں کہتے ہیں (وجہ تسمیہ) ۴۸۱
- ۲۸) جیسی نیت ویسا اللہ کا معاملہ ۴۸۱
- ۲۹) خیانت کرنے والے کا عبرت ناک انجام ۴۸۲
- ۳۰) عقلمند لوگ کون ہیں؟ ۴۸۲
- ۳۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے میں سانپ کا قصہ ۴۸۴
- ۳۲) جنت کی چادر اوڑھنے کا نبوی نسخہ ۴۸۵
- ۳۳) مشورہ میں امانت کا رنگ ہونا چاہئے سیاست و چالاکی کا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مشورہ ۴۸۵
- ۳۴) ہوائیں بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں ۴۸۶
- ۳۵) لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت ۴۸۶
- ۳۶) حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا درد بھرا خط ہارون رشید ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اور روتے تھے ۴۸۶
- ۳۷) ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ۴۸۹
- ۳۸) بچے کے کان میں اذان و اقامت کی مسنونیت ۴۹۰
- تحنیک کی سنت ۴۹۰
- ۳۹) یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ۴۹۱
- ۴۰) بچے کا سر مونڈنا ۴۹۱
- ۴۱) نظر بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ہے شفیع المذنبین میری ۴۹۲
- ۴۲) ولی ہو کر نبی کا کام کرو ۴۹۳
- ۴۳) بد نظری سے توفیق عمل چھن جاتی ہے ۴۹۳

۵۱۲ امیروں سے بے نیازی	۴۹۴ بد نظری سے قوتِ حافظہ کمزور ہوتی ہے
۵۱۳ عاجزی اور تواضع	۴۹۴ دل و دماغ کو چوٹ پہنچانے والا قصہ
۵۱۴ مخلوق کے ساتھ سلوک	۴۹۵ عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی
۵۱۵ دین کی اشاعت	۴۹۷ بد نظری کے تین بڑے نقصانات
۵۱۶ جہاد کا شوق	۴۹۸ بد نظری سے پرہیز کا خاص انعام
۵۱۷ تجارت	۴۹۸ حضرت عبداللہ بن مبارک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی عجیب
۵۱۸ تجارت کس لئے	۴۹۸ سوانح عمری
۵۱۸ انمول موتی	۴۹۸ حضرت عبداللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے والد کا قصہ
۵۱۸ چند شعر	۴۹۹ حضرت مبارک کی نیکی
۵۱۹ ایک نرالا سورج غروب ہوا تو اس کی روشنی کچھ اور پھیل گئی	۵۰۰ مبارک کی شادی
۵۱۹ (۵۰) حضرت عبداللہ نے فرمایا	۵۰۰ حضرت عبداللہ کی پیدائش
..... (۵۱) ایک انگریز جج نے فیصلہ کیا کہ مسلمان ہار گئے اسلام	۵۰۱ وطن	
۵۲۰ جیت گیا	۵۰۱ ابتدائی زندگی
۵۲۱ (۵۲) اپنی بیوی کا دل پیار سے جیتے تلوار سے نہیں	۵۰۱ اللہ کی رحمت نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا
۵۲۱ (۵۳) اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا	۵۰۲ حضرت عبداللہ کا زمانہ
۵۲۱ (۵۴) گھر میں عافیت اور سلامتی کا مجرب نسخہ	۵۰۳ حدیث
..... (۵۵) زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک	۵۰۳ فقہ	
۵۲۲ ہوتی ہے	۵۰۴ مبارک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے
..... (۵۶) نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے نیکی کے کام کروایا	۵۰۴ علم کے لئے سفر	
۵۲۲ کرتی ہیں	۵۰۵ مشہور اساتذہ
۵۲۳ (۵۷) بیوی اچھی ہو یا بری فائدہ ہی فائدہ ہے	۵۰۵ حدیث کا شوق
..... (۵۸) ملاح بولا میں نے تو اپنی آدھی عمر کھوئی مگر تم نے تو پوری	۵۰۶ شہرت	
۵۲۴ عمر ڈبوئی	۵۰۶ مقبولیت
۵۲۵ (۵۹) دنیا کی عجیب مثال	۵۰۷ امام مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنی مسند پر ابن مبارک کو بٹھایا
۵۲۶ (۶۰) سانپ کے بچے وفادار نہیں ہو سکتے	۵۰۷ سوچنے کی بات
..... (۶۱) بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے..... مگر ایسا ویسا نام	۵۰۸ خدا کا خوف	
۵۲۶ نہ رکھنا	۵۰۹ دین کی صحیح سمجھ
۵۲۷ (۶۲) بیوی سے محبت کی باتیں سنئے	۵۱۰ عجیب و غریب حج
۵۲۷ (۶۳) نفس کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی	۵۱۱ عبادت
۵۲۸ (۶۴) ایک لالچی کا قصہ	۵۱۱ حدیث رسول ﷺ سے محبت

- ۶۵ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکمت یہودی کے ساتھ ۵۲۸
- ۶۶ مصیبت میں تقدیر کا سہارا لینا حضرت آدم علیہ السلام کی ۵۲۹
- سنت ہے ۵۲۹
- ۶۷ ایک زمانہ آئے گا کہ قبر کی زمین بھی مہنگی ہو جائے گی ۵۳۰
- ۶۸ تہجد کے وقت مندرجہ ذیل کلمات دس دس مرتبہ پڑھیں ۵۳۱
- ۶۹ دل کی بیماریاں: دور کرنے کا مجرب نسخہ ۵۳۱
- ۷۰ تمام ضرورتوں کو پورا کئے جانے کا مجرب نسخہ ۵۳۱
- ۷۱ عیادت کے وقت بیمار کی شفا یابی کی دعا ۵۳۲
- ۷۲ رزق میں برکت اور ظاہری و باطنی غناء کا مجرب نسخہ ۵۳۲
- ۷۳ عمل سورہ فلق حاسد کے حسد سے بچنے کا مجرب نسخہ ہے ۵۳۲
- ۷۴ دشمن کے شر سے حفاظت کا مجرب نسخہ ۵۳۲
- ۷۵ بیماری سے صحت پانے کا مجرب نسخہ ۵۳۲
- ۷۶ مخالفین کے شر سے حفاظت کا مجرب نسخہ ۵۳۲
- ۷۷ خارجی اثرات کو ہٹانے اور فتنوں کے شر سے حفاظت کا مجرب نسخہ ۵۳۲
- ۷۸ برائے تسہیل و تعجیل نکاح و رشتہ مناسب ۵۳۲
- ۷۹ ہر بیماری سے شفا کے لئے ۵۳۳
- ۸۰ دشمنوں کے شر سے حفاظت اور غلبہ کے لئے ۵۳۳
- ۸۱ کام کی تکمیل اور آسانی کے واسطے ۵۳۳
- ۸۲ خاص ورد ۵۳۳
- ۸۳ بہ نیت اصلاح خال و ادائے حقوق ۵۳۳
- ۸۴ شیطان کی کہانی اس کی زبانی — آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے ۵۳۳
- ۸۵ وسوسے سے دین کا ضرر بالکل نہیں ہوتا اطمینان رکھئے ۵۳۹
- ۸۶ مال دار یا مال کے چوکیدار ۵۴۰
- ۸۷ دنیوی زندگی کی مثال قرآن نے پانی سے کیوں دی ہے ۵۴۰
- ۸۸ دنیا استغناء سے آتی ہے ۵۴۱
- ۸۹ شیطان رشوت نہیں لیتا ہے ۵۴۱
- ۹۰ وضو کی ترتیب میں سنت کو فرض پر مقدم کیوں کیا ۵۴۲
- ۹۱ بہترین مال وہ ہے جو جیب میں ہو دل میں نہ ہو ۵۴۳
- بدترین مال وہ ہے جو جیب میں نہ ہو دل میں ہو ... ۵۴۳
- ۹۲ میاں بیوی کو شیطان جلدی لڑا دیتا ہے ۵۴۳
- ۹۳ شیطان کی شرارت ۵۴۳
- ۹۴ حسد اور حرص دو خطرناک روحانی بیماریاں ہیں ۵۴۳
- ۹۵ شیطان کی چالاکیاں ۵۴۵
- ۹۶ موت کے وقت مریض کے قریب جا کر مت کہو کہ مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں ۵۴۵
- ۹۷ شیطان دو کمیتیں بھول گیا اس لئے ہم بچ گئے ۵۴۵
- ۹۸ ڈاکٹر موت کے وقت نشے کا انجکشن نہ دے ۵۴۶
- ۹۹ بیت اللہ جائے اور یہ اشعار پڑھئے ۵۴۶
- ۱۰۰ آٹھ گھنٹہ کی ڈیوٹی آسان ہے آٹھ منٹ کی تہجد مشکل ہے ۵۴۷
- ۱۰۱ آپ کے دل میں آگیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا گویا آپ نے شکر ادا کر لیا ۵۴۷
- ۱۰۲ اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے ۵۴۷
- ۱۰۳ بندوں سے اللہ کی ایک شکایت ۵۴۸
- ۱۰۴ رابعہ بصریہ رحمہا اللہ تعالیٰ کی نصیحت عجیب انداز میں ۵۴۸
- ۱۰۵ نعمتوں کی بقا کا آسان نسخہ ۵۴۸
- ۱۰۶ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے ۵۴۸
- ۱۰۷ ایک اہم نصیحت ۵۵۰
- ۱۰۸ درخت نے سری سقطی کو نصیحت کی ۵۵۰
- ۱۰۹ تکبر کی سزا دنیا میں جلدی ملتی ہے اللہ حفاظت فرمائے ۵۵۰
- ۱۱۰ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا؟ ۵۵۱
- ۱۱۱ اچھی عورت کی کیا صفات ہونی چاہئیں؟ ۵۵۲
- ۱۱۲ بے دین عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی ۵۵۲
- ۱۱۳ سلف صالحین کا معمول اپنی کنواری بیٹیوں کے بارے میں ۵۵۲

- ۱۱۳) مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ
 ۵۵۱ گھر والوں میں اتفاق پیدا کرنے کا نسخہ ۱۳۹
- ۱۱۴) دلوں سے بنا کرتے ہیں ۵۵۳
- ۱۱۵) ایک مردِ صالح کا عجیب قصہ — ہمیشہ با وضو رہے
 ۵۵۱ ممکن نہیں ۱۴۰
- ۱۱۶) روزی میں برکت ہوگی ۵۵۴
- ۱۱۷) نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرنا سیکھئے ۵۵۴
- ۱۱۸) کل بن دیکھے سودا تھا اس لئے سستا تھا قصہ غور سے
 ۵۵۱ بھروسہ نہیں ۱۴۱
- ۱۱۹) پڑھئے ۵۵۶
- ۱۲۰) غموں سے نجات کا قرآنی اور نبوی نسخہ ۵۵۷
- ۱۲۱) فضیلت ۵۵۷
- ۱۲۲) والدین کا حق ادا کرنے کی دعا ۵۵۸
- ۱۲۳) حکمت بھرا کلام ۵۵۹
- ۱۲۴) اور دو چیزوں کو فراموش کر دیا کرو ۵۵۹
- ۱۲۵) اور دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو ۵۵۹
- ۱۲۶) ارشادِ ربانی ۵۵۹
- ۱۲۷) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے ۵۶۰
- ۱۲۸) جب بالغ ہوئے تو کیا دیکھا ۵۶۰
- ۱۲۹) خواتین اسلام سے اسلام کے مطالبے ۵۶۱
- ۱۳۰) خود کی حقیقت ۵۶۲
- ۱۳۱) کھانے کا مزاج جدا جدا ہے اسی طرح اعمال کا مزاج بھی جدا
 ۵۶۱ عجیب قصہ ۱۵۷
- ۱۳۲) جدا ہے ۵۶۳
- ۱۳۳) ہمیں تلاوت قرآن کا لطف کیوں نہیں آتا ۵۶۴
- ۱۳۴) عجیب عبادتیں ۵۶۴
- ۱۳۵) مناجات ۵۶۵
- ۱۳۶) صحت کا فارمولہ ۵۶۸
- ۱۳۷) حمد باری تعالیٰ ۵۶۸
- ۱۳۸) مناجات ۵۶۹
- ۱۳۹) ہر قسم کی بیماری، مصیبت، تجارتی قرض، دشمنوں سے
 ۵۸۱ حفاظت کا نسخہ ۵۶۹
- ۱۴۰) سولہ (۱۶) آیاتِ حفاظت ۵۶۹
- ۱۴۱) مرض سے شفا یابی کی دعا ۵۷۱
- ۱۴۲) آسمانی کتابوں میں صرف قرآن اپنی اصلی صورت پر
 ۵۷۱ باقی ہے ۱۵۸
- ۱۴۳) نا جائز عشق سے دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے —
 ۵۷۱ طاعات کا نور سلب ہو جاتا ہے ۱۵۸
- ۱۴۴) میرادل صاف ہے، میری نظر پاک ہے یہ جملہ کہنا عام
 ۵۷۱ طور سے شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے ۱۵۹
- ۱۴۵) انگوٹھی پر تعویذ لکھنا جائز ہے یا نہیں ۱۶۱
- ۱۴۶) پاخانہ جاتے وقت تعویذ والی انگوٹھی نکال لے ۱۶۱
- ۱۴۷) چودہ (۱۴) عیوب عام طور پر ماؤں بہنوں میں پائے
 ۵۷۱ جاتے ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے ۱۶۲
- ۱۴۸) وضو کا بچا ہوا پانی اپنے بچے کے چہرے پر پھیرئے اور
 ۵۷۱ ۱۶۲

- ۶۰۳ کے گناہ معاف ۵۸۳ دعائے بچنے
- ۶۰۳ ⑤ نمازی کی نماز کا اثر سارے جہاں پر پڑتا ہے ۵۸۳ ⑫ شادی گھر بسانے کے لئے کی جاتی ہے
- ۶۰۳ ⑥ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر فرشتے بات کرتے ۵۸۳ ⑬ گھریلو زندگی زوجین کے اتحاد سے ہی پرسکون بنتی ہے
- ۶۰۳ تھے ۵۸۵ ⑭ خط کی ابتداء ۷۸۶ سے مت کیجئے
- ۶۰۳ ⑦ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۵۸۷ ⑮ مجنوں کو مجنوں کیوں کہا گیا
- ۶۰۳ ⑧ کوشاندار مناجات سکھائی ۵۸۸ ⑯ شیطان کے چہ ہتھیار
- ۶۰۳ ⑨ مؤمن کی موت پر فرشتے کی نرمی ۵۸۹ ⑰ پانچ چیزوں میں جلد بازی جائز ہے
- ۶۰۳ ⑩ ”يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“ کہہ کر دعاما نگئے، ظالم کے ۵۸۹ ⑱ تہجد کے لئے توفیق کی دعا
- ۶۰۳ ظلم سے نجات ملے گی ۵۸۹ ⑲ لفظ ”جناب“ کسی زمانے میں گالی ہوتی تھی
- ۶۰۵ ⑪ دشمن پر غالب ہونے کا نبوی نسخہ ۵۸۹ ⑳ ایک عورت کا دل ٹوٹا، روئی، سوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
- ۶۰۵ ⑫ لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں ۵۹۰ ㉑ زیارت ہوگئی
- ۶۰۵ ⑬ اے گناہ کرنے والے، گناہ کے برے انجام سے مطمئن ۵۹۰ ㉒ منتخب اشعار
- ۶۰۵ نہ ہو جانا ۵۹۰ ㉓ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ میرا کفن وہ دے
- ۶۰۵ ⑭ دشمن سے کنارہ کش رہو اور دوست کے ساتھ چوکننا ہو ۵۹۱ ㉔ جس نے حکومت عثمانی میں نوکری نہ کی ہو
- ۶۰۶ کر چلو ۵۹۲ ㉕ ایک عورت کا حسن انتخاب
- ۶۰۶ ⑮ مؤمن چار حالتوں کے درمیان رہتا ہے ۵۹۲ ㉖ دو عورتوں کا عجیب واقعہ
- ۶۰۶ ⑯ فتنہ تین آدمیوں کے ذریعہ سے آتا ہے ۵۹۳ ㉗ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی
- ۶۰۶ ⑰ فتنہ جب آتا ہے تو بالکل حق جیسا لگتا ہے ۵۹۳ ㉘ منتخب اشعار
- ۶۰۷ ⑱ دل چار قسم کے ہوتے ہیں ۵۹۳ ㉙ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ سچا ہے — تیرا قرضہ
- ۶۰۷ ⑲ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد بھرا خط — ۵۹۵ ㉚ میں ادا کروں گا
- ۶۰۷ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ۵۹۵ ㉛ خوشی کا دن سب سے زیادہ برا دن ثابت ہوا
- ۶۰۸ ⑳ اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرو ۵۹۶ ㉜ ایک قیمتی بات
- ۶۰۸ ㉑ زندگی بھر خیر کو تلاش کرتے رہو ۵۹۶ ㉝ اللہ نے ایک موتی کو ہدایت دی
- ۶۰۸ ㉒ جنازہ ایک زبردست اور مؤثر نصیحت ہے ۵۹۶ ㉞
- ۶۰۸ ㉓ وہ قوم جس کے گھر قبر میں بدل گئے ۵۹۶ ㉟
- ۶۰۹ ㉔ جو لوگوں کے عیب تلاش کرے گا اس کا غم لمبا ہوگا ۵۹۷ ㊱ دعاء کی قبولیت کا مجرب نسخہ
- ۶۰۹ ㉕ زمین کسی کو پاک نہیں بناتی، انسان تو اپنے عمل سے ۵۹۷ ㊲ حضرات بدر بنین مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم
- ۶۰۹ پاک اور مقدس بنتا ہے ۵۹۹ ㊳ حضرات بدر بنین انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم
- ۶۰۹ ㉖ تین آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور تین چیزوں سے رونا ۵۹۹ ㊴ اللہ کے راستے میں نکلنے، سورج غروب ہوتے ہی آپ

فہرست مضامین (جلد ششم)

- ۱ دعاء کی قبولیت کا مجرب نسخہ ۵۹۷
- ۲ حضرات بدر بنین مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ۵۹۷
- ۳ حضرات بدر بنین انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ۵۹۹
- ۴ اللہ کے راستے میں نکلنے، سورج غروب ہوتے ہی آپ

- آتا ہے ۶۰۹
- ۴۶) حق وزنی ہوتا ہے اور باطل ہلکا ہوتا ہے ۶۱۰
- ۴۷) دنیا کا صاف حصہ چلا گیا اور گدلا حصہ رہ گیا ہے ۶۱۰
- ۴۸) سب سے زیادہ ذمہ داریوں کی آزمائش کا ہے ۶۱۰
- ۴۹) اپنے ذمہ داریوں کی خیر خواہی کروان کو دھوکہ نہ دو ۶۱۰
- ۵۰) دل کی بیماریاں ۶۱۰
- ۵۱) منوراتِ ظاہری ۶۱۱
- ۵۲) منوراتِ باطنی ۶۱۱
- ۵۳) بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کرو جو آسمانوں میں ہیں ۶۱۲
- ۵۴) استغفار سے متعلق کچھ احادیث پڑھ لیجئے ۶۱۲
- ۵۵) مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے ۶۱۲
- ۵۶) دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کرنا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے ۶۱۲
- ۵۷) آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قرض ادا کرنے کی دعا سکھائی ۶۱۲
- ۵۸) بہترین ہدیہ سلام ہے ۶۱۳
- ۵۹) جن کے دل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں ان کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں ۶۱۳
- ۶۰) شبِ معراج میں آپ ﷺ نے ایک عجیب تسبیح ۶۱۳
- ۶۱) آسمانوں میں سنی ۶۱۳
- ۶۱) کھانا بھی ذکر کرتا ہے ۶۱۳
- ۶۲) شہد کی مکھیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب بات سمجھائی گئی ہے ۶۱۹
- ۶۳) ہوا کا خدا کا نظام پڑھ لیجئے ۶۱۹
- ۶۴) حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ ۶۲۰
- ۶۵) قیامت کے دن انسان کے تین دیوان نکلیں گے ۶۲۱
- ۶۶) اے اللہ! روٹے روٹے پر زبان ہو تو بھی تیری ایک
- ۶۰۹) آتا ہے
- ۶۱۰) حق وزنی ہوتا ہے اور باطل ہلکا ہوتا ہے
- ۶۱۰) دنیا کا صاف حصہ چلا گیا اور گدلا حصہ رہ گیا ہے
- ۶۱۰) سب سے زیادہ ذمہ داریوں کی آزمائش کا ہے
- ۶۱۰) اپنے ذمہ داریوں کی خیر خواہی کروان کو دھوکہ نہ دو
- ۶۱۰) دل کی بیماریاں
- ۶۱۱) منوراتِ ظاہری
- ۶۱۱) منوراتِ باطنی
- ۶۱۲) بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کرو جو آسمانوں میں ہیں
- ۶۱۲) استغفار سے متعلق کچھ احادیث پڑھ لیجئے
- ۶۱۲) مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے
- ۶۱۲) دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کرنا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے
- ۶۱۲) آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قرض ادا کرنے کی دعا سکھائی
- ۶۱۳) بہترین ہدیہ سلام ہے
- ۶۱۳) جن کے دل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں ان کی عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں
- ۶۱۳) شبِ معراج میں آپ ﷺ نے ایک عجیب تسبیح
- ۶۱۳) آسمانوں میں سنی
- ۶۱۳) کھانا بھی ذکر کرتا ہے
- ۶۱۹) شہد کی مکھیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب بات سمجھائی گئی ہے
- ۶۱۹) ہوا کا خدا کا نظام پڑھ لیجئے
- ۶۲۰) حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟
- ۶۲۱) قیامت کے دن انسان کے تین دیوان نکلیں گے
- ۶۲۱) اے اللہ! روٹے روٹے پر زبان ہو تو بھی تیری ایک
- ۶۱۲) کز تیزی سے جا رہی ہے
- ۶۱۲) سانپ مارنے کی عجیب فضیلت
- ۶۱۲) لوگوں میں لگ کر اپنے سے غافل نہ ہو جاؤ
- ۶۱۲) آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا توڑ عذاب ہے
- ۶۱۳) فرض نمازوں کے پانچ ہونے کی حکمت
- ۶۱۶) غم ہلکا کرنے کا مجرب عمل
- ۶۱۶) خط مسجد کی خدمت کیجئے اللہ آپ کو نیک خادمہ بیوی دے گا
- ۶۱۷) دل ہلا دینے والی دعاء
- ۶۱۷) حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو ایک دھوبن نے توحید سکھائی
- ۶۱۹) دینی پیشوا اگر پھسل جائے تو قوم کا کیا ہوگا
- ۶۲۰) مردوں کا فتنہ جمال ہے، عورتوں کا فتنہ مال ہے
- ۶۲۱) رابعہ بصریہ نے فرمایا "الْجَارُ نَمُّ الدَّارِ"
- ۶۲۱) مجنوں، بہرا اور چھوٹے بچے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں
- ۶۲۱) جوابِ خط

- ۶۳۷ ۸۶) پروردگار عالم! میرا رزق تیرے ذمے ہے۔
- ۶۳۸ ۸۷) عورت کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔
- ۶۳۹ ۸۸) نہر زبیدہ کا درد بھرا واقعہ۔
- ۶۵۱ ۸۹) کھجوروں میں برکت۔
- ۶۵۲ ۹۰) ۱۳ آیات سجدہ کو ایک مجلس میں پڑھ کر دعا کی قبولیت۔
- ۶۵۵ ۹۱) ایک عورت کی بہادری کا واقعہ۔
- ۶۵۷ ۹۲) ماں نے فرمایا، بیٹا حق پر جان دے دو۔
- ۶۶۰ ۹۳) آپ ﷺ کے زمانہ میں دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا۔
- ۶۶۱ ۹۴) حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عجیب دل ہلانے والی نصیحت کی۔
- ۶۶۲ ۹۵) شیطان ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیلنا جانتا ہے۔
- ۶۶۲ ۹۶) مندرجہ ذیل گیارہ (۱۱) آیتوں پر جو جم گیا وہ جنتی ہے۔
- ۶۶۲ آپ ﷺ کی عجیب و غریب دعاء۔
- ۶۶۳ ۹۷) نافرمان بیوی کے لئے ایک مجرب عمل۔
- ۶۶۳ ۹۸) جس کی اصلاح مشائخ سے نہیں ہوتی اس کی اصلاح نافرمان بیوی سے ہوتی ہے۔
- ۶۶۳ ۹۹) خواب میں کسی کے سر پر تاج رکھ دیا جائے تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا۔
- ۶۶۳ ۱۰۰) معاف کر دینے والا بآرام میٹھی نیند سو جاتا ہے اور بدلے کی دھن والا دن رات متفکر رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا ہے۔
- ۶۶۵ ۱۰۱) معاف کرنے میں جو لذت ہے، بدلہ لینے میں نہیں ہے۔
- ۶۶۶ ۱۰۲) اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوب خوش ہوتا ہے۔
- ۶۶۶ ۱۰۳) آخرت کی بھلائیاں صرف ان کے لئے ہیں جو دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے۔
- ۶۶۶ ۱۰۴) ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی سے بدل جائے گی۔
- ۶۶۷ ۱۰۵) مگر پرہیزگاروں کی دوستی قائم رہے گی۔
- ۶۶۷ ۱۰۶) سب سے نیچے درجہ کا جنتی اس کی نگاہ سو سال کے راستے تک جائے گی۔
- ۶۶۸ ۱۰۷) نعت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔
- ۶۳۰ ۱۰۸) عبداللہ بن سلام مکہ مکرمہ عید منانے گئے اور اللہ نے اسلام دے دیا۔
- ۶۳۱ ۱۰۹) داعی کی حیات اسلام کی حیات ہے، اور داعی کی موت بھی اسلام کی حیات ہے۔
- ۶۳۱ ۱۱۰) حضرت انس رضی اللہ عنہ ہر رات حضور ﷺ کو خواب میں دیکھتے تھے۔
- ۶۳۳ ۱۱۱) جنت اور جہنم کی آپس میں گفتگو۔
- ۶۳۳ ۱۱۲) ایک آدمی کا عجیب صدقہ۔
- ۶۳۳ ۱۱۳) آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، صبر کر لیجئے، اللہ آپ کے درجے بڑھا دے گا۔
- ۶۳۳ ۱۱۴) خدایا تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔
- ۶۳۳ ۱۱۵) منافقین کے بارے میں کچھ پڑھ لیجئے۔
- ۶۳۵ ۱۱۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عجیب خواب اور اس کی عجیب تعبیر۔
- ۶۳۷ ۱۱۷) سات بیٹیوں کی برکت سے ایک آدمی جہنم سے بچ گیا تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔
- ۶۳۷ ۱۱۸) باون لاکھ درہم، پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔
- ۶۳۸ ۱۱۹) شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لنگڑی ہے۔
- ۶۳۹ ۱۲۰) نہایت ذہین بیوی۔
- ۶۳۹ ۱۲۱) حضرت جلییب رضی اللہ عنہ کی عجیب شادی اور عجیب شہادت۔
- ۶۴۰ ۱۲۲) بہترین عورت کی خوبیاں۔
- ۶۴۲ ۱۲۳) کبھی کبھی بیوی اپنے شوہر پر خرچ کرے۔
- ۶۴۲ ۱۲۴) ایک عورت کو مرگی کے دورے پڑتے تھے مگر وہ جنتی تھی۔
- ۶۴۳ ۱۲۵) ہمیشہ دم بن کر رہو، سر بن کر نہ رہو، کیونکہ سب سے پہلے مار ہمیشہ سر پر پڑا کرتی ہے۔
- ۶۴۳ ۱۲۶) بارہ اہم نصیحتیں۔
- ۶۴۳ ۱۲۷) قضاے حاجات کے لئے مولانا مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا مجرب عمل۔
- ۶۴۷ ۱۲۸) بتایا ہوا مجرب عمل۔

- ۱۰۶) آپ ﷺ کی عجیب مناجات ۶۶۸
- ۱۰۷) حق کے مطابق فیصلہ کیجئے، دو فرشتے ساتھ رہیں گے اور آپ کی رہبری کریں گے ۶۶۹
- ۱۰۸) امارت کے خواہش مند اپنی خواہش کے انجام کو سوجھیں ہر امیر چاہے اچھا ہو یا برا جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائے گا اور اسے طوق پہنایا جائے گا ۶۶۹
- ۱۰۹) شیطان کی تصویر بنا دیجئے ۶۷۱
- ۱۱۰) میاں بیوی کی شکر رنجی اگر ہو تو باوقار ہو ۶۷۱
- ۱۱۱) باندی کی حاضر دماغی سے سیٹھ بچ گیا ۶۷۲
- ۱۱۲) ہر قدم پر سال بھر کے روزے اور سال بھر تہجد کا ثواب لینے کا نبوی نسخہ ۶۷۳
- ۱۱۳) بچوں کے ساتھ جھوٹا وعدہ کبھی مت کیجئے ۶۷۳
- ۱۱۴) دو جمعہ یعنی ایک ہفتے کے گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ ۶۷۳
- ۱۱۵) اپنے دل کی محراب کو زائل سے بچائیے ۶۷۴
- ۱۱۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک آیت سن کر مہینہ بھر بیمار رہے ۶۷۴
- ۱۱۷) قیامت کے دن آسمان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا، چکر کھانے لگے گا ۶۷۵
- ۱۱۸) اسلام قبول کرنے کے بعد کیا زمانہ کفر کی نیکیاں قبول ہو سکتی ہیں یا نہیں ۶۷۵
- ۱۱۹) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے مجھے ڈھونڈنا کہ تو مجھے پالے ۶۷۶
- ۱۲۰) جہنم کا خطرناک ساحل ۶۷۶
- ۱۲۱) مسجدوں کو دلہن نہ بنائیے ۶۷۶
- ۱۲۲) نہر کوثر کا تذکرہ پڑھ لیجئے ۶۷۶
- ۱۲۳) جنت میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اور مول ہوں گے ۶۷۷
- ۱۲۴) عرش کے اٹھانے والے فرشتے مندرجہ ذیل تسبیح پڑھتے رہتے ہیں ۶۷۸
- ۱۲۵) ایک بزرگ کو ایک جن نے بڑی عجیب نصیحت کی ... ۶۷۸
- ۱۲۶) ایک بڑے میاں نے حضور ﷺ سے عجیب سوال کیا. ۶۷۸
- ۱۲۷) چہرہ پردہ میں داخل ہے یا نہیں ۶۷۹
- ۱۲۸) اے اللہ ہماری زبان اور دل کو مسلمان بنا دے ۶۸۲
- ۱۲۹) حرام بستر کے علاوہ سب کچھ کر لیا اب میں کیا کروں. ۶۸۲
- ۱۳۰) زبیدہ کی ایک نیکی پر مغفرت اذان کا ادب کیجئے، خاص طور سے مائیں بہنیں ۶۸۳
- ۱۳۱) زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتی ہے .. ۶۸۳
- ۱۳۲) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو مندرجہ ذیل دعا سکھاتے تھے ۶۸۳
- ۱۳۳) مناجات ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ ۶۸۳
- ۱۳۴) رنگ برنگی باتیں جن سے خوشبو آئے ۶۸۵
- ۱۳۵) جواہر پارے ۶۸۵
- ۱۳۶) قرآن ۶۸۶
- ۱۳۷) مسجد میں اللہ کے ذکر و عبادت میں خلل ڈالنے والا سب سے بڑا ظالم ہے ۶۸۶
- ۱۳۸) نمازیوں کی توجہ ہٹانے والا سزا کا مستحق ہے ۶۸۷
- ۱۳۹) مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے لئے سخت وعید ۶۸۷
- ۱۴۰) مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے لئے بیٹھنا جائز ہے ۶۸۷
- ۱۴۱) اپنی گمشدہ چیز کے لئے مسجد میں اعلان کرنے کی مذمت ۶۸۷
- ۱۴۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا مسجد سے باہر چبوتر ا بنانا ۶۸۸
- ۱۴۳) مسجد کی عظمت ارشاد خداوندی کی روشنی میں ۶۸۸
- ۱۴۴) ایک عام غلطی کی اصلاح ہر محلہ میں مسجد بنانے کا حکم حدیث شریف کی روشنی میں ۶۸۸
- ذمہ دار علماء کرام سے درخواست ۶۸۹
- سادگی بذات خود حسن ہے ۶۸۹

- ۱۳۶) روزی میں برکت کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کی دعاء
 بہت نفع بخش ہے..... ۶۹۰
- ۱۳۷) واہ رے واہ اللہ! سبحان تیری قدرت بلی کی تربیت کا
 عجیب انداز..... ۶۹۱
- ۱۳۸) ایک لڑکی نے کہا کہ میں طلحہ رضی اللہ عنہا سے شادی
 کروں گی، اس لئے کہ وہ گھر میں آتے ہیں ہنستے
 ہوئے اور گھر سے جاتے ہیں مسکراتے ہوئے اور مالدار
 بھی ہیں..... ۶۹۲
- ۱۳۹) کن کن وقتوں میں دعاء قبول ہوتی ہے وہ مندرجہ ذیل
 ہیں..... ۶۹۲
- ۱۴۰) دعا کی قبولیت کے لئے بہت مجرب عمل..... ۶۹۳
- ۱۴۱) ایک جیب کترے نے عجیب نصیحت کی..... ۶۹۳
- ۱۴۲) جس اللہ کو زمین کے اوپر بھول نہ سکی تو زمین کے نیچے
 کیسے بھول سکتی ہوں..... ۶۹۳
- ۱۴۳) گنجائش والا اسلام نبھے گا اور قربانی والا اسلام چلے گا..... ۶۹۳
- ۱۴۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی وفات کا منظر..... ۶۹۶
- ۱۴۵) حل مشکلات کا نبوی نسخہ..... ۷۰۱
- ۱۴۶) ہرنج و غم دور کرنے کا نبوی نسخہ..... ۷۰۱
- ۱۴۷) فقر دور کرنے کا نبوی نسخہ..... ۷۰۱
- ۱۴۸) امام حسن رضی اللہ عنہما کو آپ ﷺ نے خواب میں
 عجیب دُعا سکھائی..... ۷۰۲
- ۱۴۹) نعت از قاری محمد طیب رضی اللہ عنہما..... ۷۰۲
- ۱۵۰) یار رہے یارب تو میرا..... ۷۰۳
- ۱۵۱) اللہ نے کان دودئیے ہیں (یعنی زیادہ سنو) زبان ایک
 دی ہے (یعنی ڈھنگ کا بولو اور کم بولو) سخت بات سے
 اصلاح نہیں ہوتی..... ۷۰۳
- ۱۵۲) اللہ تک پہنچنے کے لئے بے شمار راستے ہیں..... ۷۰۳
- ۱۵۳) طلب مجنوں کی طرح..... ۷۰۵
- ۱۵۴) اصلی اور نقلی مجنوں..... ۷۰۵
- ۱۶۵) محبت الہی کے ساتھ محبت نبوی..... ۷۰۶
- ۱۶۶) عرش جب میدان محشر میں اترے گا سارے فرشتے
 عجیب تسبیح پڑھیں گے وہ تسبیح مندرجہ ذیل ہے..... ۷۰۶
- ۱۶۷) عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو..... ۷۰۷
- ۱۶۸) آپ ﷺ بہت روئے..... ۷۰۷
- ۱۶۹) مہمان کو کھلایئے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے..... ۷۰۸
- ۱۷۰) توبہ کی پختگی کے لئے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت بڑا
 ذریعہ ہے..... ۷۹۸
- ۱۷۱) آپ ﷺ نے قبرستان میں عجیب بیان کیا..... ۷۰۹
- ۱۷۲) آسمان کے فرشتے ذرات زمین سے زیادہ تعداد میں
 ہیں..... ۷۱۱
- ۱۷۳) ایک آیت اتری اور سارے جنات شہروں سے نکل
 پڑے..... ۷۱۱
- ۱۷۴) اللہ کی قدرت..... ۷۱۲
- ۱۷۵) محمد بن قاسم کا ایک گھرا جڑ گیا اور لاکھوں کروڑوں
 انسان اسلام میں آ گئے..... ۷۱۲
- ۱۷۶) جو حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے..... ۷۱۳

فہرست مضامین (جلد ہفتم)

- ۱) حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رَحِمَہُ اللہُ عَلَیْہِ
 کا استقبال انتقال کے بعد..... ۷۱۵
- ۲) نابیناؤں کے لیے خاص فضیلت..... ۷۱۵
- ۳) وہ گناہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل زمینوں
 کو بے وفا اور سمندروں کو سرکش بنا دیتے ہیں..... ۷۱۵
- ۴) والدہ کی فرماں برداری کا عجیب واقعہ..... ۷۱۶
- ۵) ماں کی نافرمانی قیامت کی علامت ہے..... ۷۱۶
- ۶) لہجوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی..... ۷۱۷
- ۷) عبرت انگیز مکالمہ..... ۷۱۷
- ۸) ماں کی خدمت سے کبیرہ گناہوں کی معافی..... ۷۱۸

- ۷۱۸ ۹ اولاد سے عام شکایت
- ۷۱۹ ۱۰ معصوم بچی کا حسرت ناک واقعہ
- ۷۲۰ ۱۱ عبرت ناک کارگزاری
- ۷۲۱ ۱۲ فرزدق کے دادا نے چورانوے (۹۴) بچیوں کو ظالم باپوں کے چنگل سے بچالیا
- ۷۲۱ ۱۳ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نوک جھوک
- ۷۲۲ ۱۴ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک عجیب تمنا
- ۷۲۲ ۱۵ عظیم ماں کی تربیت لوگوں کی تقدیریں بدل دیتی ہے
- ۷۲۳ ۱۶ مناسب رشتے کی تلاش
- ۷۲۴ ۱۷ شریک حیات کے انتخاب کا معیار
- ۷۲۵ ۱۸ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت
- ۷۲۶ ۱۹ ذرا غور کریں: مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجئے
- ۷۲۶ ۲۰ قرآن پاک کا ادب و احترام
- ۷۲۸ ۲۱ مال سے ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں علم نہیں خرید سکتے
- ۷۲۸ ۲۲ دین دار غرباء اللہ کے قریب ہوں گے
- ۷۲۸ ۲۳ دوست کو دوست کیوں کہتے ہیں؟
- ۷۲۸ ۲۴ حضرت حسن بصری کی سوانح حیات پڑھ لیجئے
- ۷۲۸ ۲۵ ایران کی تین شہزادیوں نے مدینہ منورہ کے تین دیندار لڑکوں کو پسند کیا
- ۷۳۱ ۲۶ حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ
- ۷۳۱ ۲۷ پوشیدہ قرضہ ادا کر دیجئے جس حور سے چاہیں نکاح کر لیجئے اور جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیے
- ۷۳۵ ۲۸ مسلمان رسم و رواج ٹوٹے پر تڑپتے ہیں اور سنت نبوی کے چھوٹے پرنس سے مس نہیں ہوتے
- ۷۳۶ ۲۹ برش، منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے مسواک کا ثواب نہیں ملے گا
- ۷۳۷ ۳۰ مسواک کرتے وقت یہ نیت کیجئے
- ۷۳۸ ۳۱ مسواک کرنے کا مسنون طریقہ
- ۷۳۸ ۳۲ مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ
- ۷۳۸ ۳۳ مسواک کی مونائی کتنی ہو؟
- ۷۳۸ ۳۴ مسواک کی لمبائی کتنی ہو؟
- ۷۳۸ ۳۵ مسواک کو بچھا کر نہ رکھئے بلکہ کھڑی کر کے رکھئے، جنون سے حفاظت ہوگی
- ۷۳۸ ۳۶ مسواک کرنے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھئے
- ۷۳۹ ۳۷ ورنہ کئی بیماریوں کا اندیشہ ہے
- ۷۳۹ ۳۸ بلا اجازت دوسرے کی مسواک استعمال کرنا مکروہ ہے
- ۷۳۹ ۳۹ دینداروں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیے
- ۷۳۹ ۴۰ نفس کے باریک باریک دھوکوں سے بچئے
- ۷۳۹ ۴۱ مخالف کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجئے
- ۷۵۰ ۴۲ حکیم ترمذی کا عجیب خواب
- ۷۵۰ ۴۳ گھر میں داخل ہو کر سورہ اخلاص پڑھ لیجئے ان شاء اللہ روزی میں برکت ہوگی
- ۷۵۱ ۴۴ حضرت عبداللہ بن مبارک کا انتقال کیسے ہوا؟
- ۷۵۱ ۴۵ جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے
- ۷۵۲ ۴۶ مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ
- ۷۵۳ ۴۷ کتے کی دس صفات
- ۷۵۳ ۴۸ گناہ کرنے کی چار وجوہات ہیں
- ۷۵۳ ۴۹ حضرت جنید بغدادی نبی کریم کی قرابت کے واسطے کی خاطر بالقصد کشتی ہار گئے
- ۷۵۵ ۵۰ اللہ نے کہا تو نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا، جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں
- ۷۵۶ ۵۱ خواب میں کھارا پانی اپنے کھیت میں دیکھنا اور اس کی تعبیر
- ۷۵۶ ۵۲ حضرت عقبہ بن عامر کو حضور کی بڑی عجیب نصیحت
- ۷۵۶ ۵۳ ”اللہ کا رنگ اختیار کرو“ اس کا کیا مطلب ہے؟

- ۴۴۲ تین درجات بلند کرنے والی چیزیں
- ۴۴۳ تین گناہوں کا کفارہ کر دینے والی چیزیں
- ۴۴۳ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی نصیحت
- ۴۴۶ ۶۳) چھ لاکھ سیٹوں والا ہوائی جہاز
- ۴۴۶ ۶۵) دعوت کا کام فرض ہے یا واجب یا سنت؟
- ۴۴۶ ۶۶) جنت کے ہوائی جہازوں میں سونے (Gold) کی کرسیاں ہوں گی
- ۴۴۸ ۶۷) جنت کا درخت جس کی جڑیں سے دو نہریں نکلتی ہیں
- ۴۴۸ ۶۸) مندرجہ ذیل کلمات پڑھ لیجیے اور چھ بڑی بڑی فضیلتیں حاصل کر لیجیے
- ۴۴۸ ۶۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی
- ۴۴۹ ۷۰) ایک سادہ انسانی زندگی
- ۴۴۹ ۷۱) ازواج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت
- ۴۴۹ ۷۲) آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ حساب کتاب برابر ہو گیا
- ۴۸۰ ۷۳) بچوں سے محبت اور شفقت
- ۴۸۳ ۷۴) خادموں کے ساتھ برتاؤ
- ۴۸۳ ۷۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات
- ۴۸۳ ۷۶) خانہ نبوی کا زاہدانہ ماحول
- ۴۸۶ ۷۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک تحریری فتویٰ
- ۴۸۷ ۷۸) ایک نو مسلمہ عورت کی عجیب کارگزاری
- خواب کا بیان**
- ۴۸۹ ۷۹) خواب کے آداب
- ۴۹۰ ۸۰) خواب معلوم کرنا
- ۴۹۰ ۸۱) خواب پیش کرنا
- ۴۹۰ ۸۲) خواب پسند کرنا
- ۴۹۰ ۸۳) فجر کے بعد خواب معلوم کرنا
- ۴۹۱ ۸۴) خواب کی تعبیر صبح کی نماز کے بعد دینا
- ۴۹۱ ۸۵) پہلی تعبیر کا اعتبار
- ۴۵۷ ۵۲) سو (۱۰۰) بکھرے موتی پڑھ لیجیے
- ۴۵۸ جس دل میں غم نہ ہو
- ۴۵۸ دل ہنڈیا کے مانند ہے
- ۴۵۸ ولی، گنہگار اور شیطان
- ۴۵۹ سچ کو باہر مت چھوڑیے
- ۴۵۹ اخلاص کیا ہے؟
- ۴۶۰ جہنم میں ایک مصلے کی جگہ
- ۴۶۰ دوزخ میں بھی ایمان کی برکت: گنہگار مؤمنین کو جہنم میں تکلیف کا احساس نہیں ہوگا
- ۴۶۱ ۵۳) مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ دعا پڑھ لیجیے، شیطان سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی
- ۴۶۳ ۵۵) ایک قیمتی نصیحت: حضور کی شفقت و دلجوئی کا عجیب واقعہ
- ۴۶۳ ۵۶) ایک قیمتی نصیحت: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار کی مزاج پرسی کا عجیب واقعہ
- ۴۶۳ ۵۷) ایک قیمتی نصیحت: ہر نعمت اور مصیبت کے دونوں رُخ دیکھا کریں
- ۴۶۵ ۵۸) ایک قیمتی نصیحت: دین کے کام کے ذریعے شہرت طلب کرنا کمر کو توڑ دیتا ہے
- ۴۶۵ ۵۹) صحابہ کرام سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر، یہ کہتے ہوئے کہ سنت ہی تو ہے فرض تو نہیں ہے
- ۴۶۶ ۶۰) ایک عجیب واقعہ: ہار بھی ملا بار والی بھی ملی
- ۴۶۷ ۶۱) اختلاف اتحاد کو لے ڈوبتا ہے
- ۴۶۷ ۶۲) جب کسی محفل میں لوگ ہماری تعریف کریں تو خاموش رہا کریں
- ۴۶۸ ۶۳) اکتیس (۳۱) اہم نصیحتیں
- ۴۷۲ تین نجات دینے والی چیزیں
- ۴۷۲ تین ہلاک کرنے والی چیزیں

- ۸۰۲ ۱۱۴) زبیدہ ملکہ کی بخشش
- ۸۰۲ ۱۱۵) ایک لوہار کا واقعہ
- ۸۰۳ ۱۱۶) خواب میں اذان دینا عزت بھی اور ذلت بھی
- ۱۱۷) مسجد کے آداب (ہماری جماعتیں بہت اہتمام سے یہ مضمون پڑھیں)
- ۸۰۳ ۱۱۸) حدیث اور صاحب حدیث کا مقام رفیع
- ۸۰۸ ۱۱۹) حدیث نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا ادب
- ۱۲۰) حدیث مبارک پڑھنے یا پڑھانے اور سننے یا سنانے کی مجالس کے چند آداب
- ۸۰۹ ۱۲۱) حدیث شریف کے ادب کے تعلق سے چند واقعات
- ۱۲۲) سات عجیب و غریب سوال اور سات عجیب و غریب جواب
- ۸۱۱ ۱۲۳) حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ! تیری راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں میں نے دو رکعت کی نیت کی اور تیری رات ختم ہو گئی
- ۸۱۲ ۱۲۴) آپ کا شوہر جب تجارت کے لیے جائے تو آپ چاشت کی نماز پڑھ کر برکت کی دعا کریں تو روزی میں برکت ہوگی
- ۸۱۲ ۱۲۵) پہلے زمانے میں عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے کئی پارے قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں
- ۱۲۶) پہلے زمانے میں مائیں بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے کئی پارے قرآن پڑھ لیتی تھیں
- ۸۱۳ ۱۲۷) ہیرا تم ڈھونڈنا اور قیمت ہم لگا دیں گے
- ۸۱۳ ۱۲۸) علماء کی تین قسمیں
- ۱۲۹) لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے
- ۸۱۳ ۱۳۰) دیہات میں عورتوں کے لیے تعلیم کی اہمیت و ضرورت
- ۸۱۶ ۱۳۱) بوڑھے ماں باپ کا ہر حال میں خیال رکھیے
- ۸۱۸ ۱۳۲) عورت نہاں، بیٹی، بیوی اور بہن کی حیثیت سے
- ۷۹۱ ۸۷) خواب کی تعبیر دیتے اور سنتے وقت کیا پڑھے؟
- ۷۹۲ ۸۸) مومن کا خواب نبوت کا ایک حصہ ہے
- ۷۹۲ ۸۹) اچھا خواب مومن کے لیے بشارت ہے
- ۷۹۲ ۹۰) اچھا خواب دیکھے تو کیا کرے؟
- ۷۹۳ ۹۱) خواب کی نوعیت اور اس کی قسمیں
- ۷۹۳ ۹۲) شیطانی خواب
- ۷۹۳ ۹۳) ناپسندیدہ خواب کسی سے بیان نہ کرو
- ۷۹۳ ۹۴) ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کیا کرے
- ۷۹۳ ۹۵) خواب سے بیماری
- ۷۹۵ ۹۶) صبح کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے
- ۷۹۵ ۹۷) سچ بولنے والے کا خواب سچا ہوتا ہے
- ۷۹۶ ۹۸) خواب کس سے بیان کرے؟
- ۷۹۶ ۹۹) خواب اپنے خیر خواہ دوست سے بیان کرے
- ۷۹۶ ۱۰۰) ذکر خواب کے آداب
- ۷۹۷ ۱۰۱) تعبیر واقع ہوتی ہے
- ۷۹۷ ۱۰۲) تعبیر کے اصول
- ۷۹۷ ۱۰۳) چاند کی تعبیر
- ۷۹۷ ۱۰۴) دودھ پینے کی تعبیر
- ۷۹۷ ۱۰۵) پھونک مار کر اڑانے کی تعبیر
- ۷۹۸ ۱۰۶) شہد اور گھی کی تعبیر
- ۷۹۸ ۱۰۷) سر کٹنے کی تعبیر
- ۷۹۸ ۱۰۸) خواب گویا حقیقت
- ۷۹۸ ۱۰۹) سفید لباس کی تعبیر
- ۷۹۹ ۱۱۰) اعضاء و جوارح کی تعبیر
- ۷۹۹ ۱۱۱) چند خوابوں کی تعبیریں
- ۷۹۹ ۱۱۲) نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھنے کا بیان
- ۸۰۱ ۱۱۳) زیارت متبرک کے کچھ فوائد و تعبیرات
- ۸۰۱ ۱۱۴) خواب میں زیارت نبوی کے حصول کا بیان

- ۸۳۳ ۱۲۰) مستورات کے چوبیس گھنٹے کے مختصر کام
- ۸۳۶ ۱۲۱) مستورات میں دعوت کے کام کی شروعات
- ۱۲۲) ایمان اعمال صالحہ کے بغیر ایسا ہے جیسے پھول خوشبو کے بغیر
- ۸۳۸ ۱۲۳) جہنمی جہنم میں بہت موٹے ہو جائیں گے
- ۸۳۹ ۱۲۴) اللہ کے فضل سے جنت ملے گی
- ۸۳۹ ۱۲۵) فریقین کی بات سن کر کوئی فیصلہ کریں
- ۸۳۹ ۱۲۶) کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو
- ۸۵۰ ۱۲۷) اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوحے ہیں
- ۸۵۰ ۱۲۸) ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے
- ۸۵۰ ۱۲۹) جنت اور جہنم میں جھگڑا
- ۸۵۱ ۱۳۰) سجدہ تلاوت کی مسنون دعا
- ۸۵۱ ۱۳۱) منتخب اشعار
- ۸۵۳ ۱۳۲) خوش رہ کر دوسروں کو خوش رکھیے
- ۸۵۳ ۱۳۳) اندرونی احساسات کو چھپانا سیکھئے
- ۸۵۳ ۱۳۴) معاشرتی دباؤ سے مزاج کو ہم آہنگ بنائیں
- ۸۵۳ ۱۳۵) تلخ باتوں کو بھول جائیں
- ۸۵۳ ۱۳۶) لوگوں کے جذبات کی قدر کریں
- ۸۵۳ ۱۳۷) چاہلو سانہ روش سے گریز کیجئے
- ۸۵۵ ۱۳۸) نظریات میں لچک پیدا کیجئے
- ۸۵۵ ۱۳۹) کچھ منتخب اشعار
- ۸۵۵ ۱۴۰) نیک کردار بیوی ایک انمول خزانہ ہے
- ۸۵۶ ۱۴۱) اپنی ازدواجی زندگی کو خوش گوار بنائیے
- ۸۵۷ ۱۴۲) اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیے
- ۸۵۹ ۱۴۳) حکمت کے موتی
- ۸۶۰ ۱۴۴) شادی شدہ لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داریاں
- ۸۶۱ ۱۴۵) ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے
- ۸۶۲ ۱۴۶) مشرقی اور مغربی تہذیب کا فرق
- ۸۶۳ ۱۴۷) فجر کی نماز پڑھ کر بلا عذر سو جانا منع ہے
- ۸۱۹ ۱۳۲) عورت کی اصل درس گاہ اس کی سرال ہے
- ۸۲۰ ۱۳۳) ترقی صرف معاشی خوش حالی کا نام نہیں ہے
- ۸۲۲ ۱۳۴) نبی اللہ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے
- ۸۲۳ ۱۳۵) ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں
- ۸۲۵ ۱۳۶) فضول گوئی سے پرہیز کیجئے
- ۸۲۶ ۱۳۷) اپنی اصلاح آپ کریں
- ۸۲۷ ۱۳۸) کیا آپ ﷺ کے بدن کا سایہ نظر آتا تھا؟
- ۸۲۷ ۱۳۹) آپ کی کتاب ”مومن کا ہتھیار“ پڑھتی ہوں مگر
- ۸۲۸ ۱۴۰) جہیز کی لعنت سے بچئے
- ۸۲۹ ۱۴۱) اسلامی سزائیں انسانی معاشرے کے لیے رحمت ہیں
- ۸۳۱ ۱۴۲) تیری گود میں پلتی ہے تقدیر اُم
- ۸۳۲ ۱۴۳) قریش کی عورتیں
- ۸۳۳ ۱۴۴) کبر کی تعریف اور اس کا نتیجہ
- ۸۳۳ ۱۴۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟
- ۸۳۵ ۱۴۶) اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہلاک ہوگا
- ۸۳۵ ۱۴۷) سب سے پہلے اسلام میں امیر کون بنا؟
- ۸۳۵ ۱۴۸) حضرت عبداللہ بن زبیر کا تیر کر طواف کرنا
- ۸۳۵ ۱۴۹) منتخب اشعار
- ۸۳۵ ۱۵۰) آپ بہت اچھے ماں باپ بن سکتے ہیں
- ۸۳۷ ۱۵۱) صنف نازک کی حفاظت بے حد ضروری ہے
- ۸۳۸ ۱۵۲) معاشرے کی تعمیر میں عورت کا رول
- ۸۳۸ ۱۵۳) امام ابوحنیفہ کی دانش مندی نے ایک گھر برباد ہونے سے بچالیا
- ۸۳۹ ۱۵۴) ایک لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے
- ۸۴۰ ۱۵۵) شہوت کا مفہوم اور اس سے بچنے کا طریقہ
- ۸۴۱ ۱۵۶) نماز کے فوائد؛ حضور ﷺ کی زبانی
- ۸۴۳ ۱۵۷) مال حرام کی نحوست
- ۸۴۳ ۱۵۸) والدین کا فرمانبردار بننے کا طریقہ

فہرست مضامین (جلد ہشتم)

- ۸۷۹ دل سے علم کیسے نکل جاتا ہے؟
- ۸۷۹ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص کون ہوگا؟
- ۸۷۹ گناہ گار ذمہ دار کے فیصلے اسلام کو ڈھادیے ہیں
- ۸۷۹ جنت میں بہت بہت محل بنانے کا نبوی نسخہ
- ۸۸۰ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عرش پر لیا گیا
- ۸۸۰ آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے
- ۸۸۰ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں؟
- ۸۸۱ اللہ سے بہت دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے
- ۸۸۱ اپنی زندگی میں اپنی جنت دیکھنے کا نبوی نسخہ
- ۸۸۱ قاتل اور مقتول کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے
- ۸۸۱ شہید کے لیے خصوصی انعام
- ۸۸۲ سوال و جواب کے انداز میں
- ۸۸۲ ہاتھ کا بوسہ وغیرہ لینا کیسا ہے؟
- ۸۸۲ مردے بھی زندوں کا کلام سنتے ہیں
- ۸۸۳ مال غنیمت میں خیانت کرنے کا وبال
- ۸۸۳ ابو جہل کی تلوار کس کو ملی؟
- دو درہم سے کم خیانت کرنے والے کی نماز جنازہ آپ
- ۸۸۳ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی
- ۸۸۵ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی سزا
- ۸۸۶ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف
- یہودیوں کا سلام، انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور عیسائیوں
- کا سلام، ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور مسلمانوں
- ۸۸۷ کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے
- اپنے ماتحتوں کی تربیت کی خاطر اجازت طلب نہ کرنے پر
- ۸۸۸ تنبیہ
- ۸۸۸ لوگ کہتے ہیں: کہہ کر بات چلتی ہے مزدکی بری سواری ہے
- تقریر میں بے فائدہ مبالغہ آرائی کرنے والے کا نہ فرض
- ۸۸۸ قبول ہے نہ نفل قبول
- ۸۸۸ زبان کی خوب حفاظت کریں

- ۸۶۵ رحمت بارگاہ رسالت
- ۸۶۵ دنیا میں ہر دقت گونجنے والی آواز "اذان" ہے
- ۸۶۶ حرم مکہ اور حرم مدینہ کا احترام
- ۸۶۷ تلاوت قرآن کے آداب
- ۸۶۷ آداب ظاہری
- ۸۶۸ آداب باطنی
- ۸۶۸ قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں
- ۸۶۹ والدین کے آداب کے ثمرات
- ۸۷۰ والدین کا ادب اور نقوش اسلاف
- ۸۷۱ خلاصہ کلام
- طالب علم کو علم کا حریص ہونا چاہیے مگر وطن میں مواقع میسر
- نہ ہوں تو سفر سے گھبرانا نہیں چاہیے
- ۸۷۱ دسترخوان مناسب جگہ پر جھاڑا جائے
- ۸۷۳ عورتوں کے لیے مخصوص آداب
- ۸۷۴ متفرق آداب
- ۸۷۵ دور حاضر میں امت مسلمہ کی حالت زار
- ۸۷۶ چھ آدمی جن پر لعنت کی گئی
- ۸۷۶ مومنین اور مشرکین کی اولاد کا انجام
- حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے چالیس سال
- ۸۷۷ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدیہ دیا
- ۸۷۷ خدا یا اپنی داہنی مٹھی والا ہم کو بنا دے
- ۸۷۸ انسان کی خصلت و جبلت اٹل ہوتی ہے
- ۸۷۸ جنت میں داخل ہونے کے تین آسان نبوی نسخے
- ۸۷۸ جھگڑا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے
- ایک بدعت کی ایجاد سے ایک سنت اٹھالی جاتی ہے پھر
- ۸۷۸ وہ قیامت تک واپس نہیں آتی
- ۸۷۹ دعوت کے بارے میں یہ مضمون عجیب ہے

- ۸۹۶ ہیں
- طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا
- ۸۹۶ گناہ قریب قریب ہے
- ۸۹۶ صلح کرانے کی فضیلت اور فساد پھیلانے کی مذمت
- اس امت کی طرف یہود و نصاریٰ کی ایک بیماری سرک آئی
- ۸۹۷ ہے
- جب کسی مؤمن سے حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ایمان بھی رخصت
- ۸۹۷ ہو جاتا ہے
- تین چیزیں قابل توجہ
- ۸۹۷ حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا یہ تکبر ہے
- ۸۹۸ حد سے زیادہ تکبر کرنے کا نتیجہ
- ۹ نو برے بندے
- ۸۹۸ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے
- ۸۹۹ عام طور پر ظالم کی عمر دراز نہیں ہوتی
- ۸۹۹ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے
- ظالم کی تائید اور موافقت کرنے والا کمال ایمان سے محروم
- ۹۰۰ ہو جاتا ہے
- ظلم کی نحوست یہ ہے کہ جباری پرندہ بھی گھونسلے میں دبلا ہو کر
- ۹۰۰ مر جاتا ہے
- ظالم کو محبت سے سمجھانا چاہیے ورنہ عذاب سب پر آئے گا
- ۹۰۰ رسول خدا ﷺ کا ایک اہم بیان اس کو یاد کر لیجیے
- ۹۰۲ آخری زمانہ کے متعلق اہم ہدایات
- لوگوں کے ڈر سے اصلاح کی فکر نہ کرنے والے کی معافی
- ۹۰۲ قابل رشک بندہ
- ۹۰۲ مساکین مال داروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل
- ۹۰۳ ہو گے
- ۹۰۳ سات بکھرے موتی
- ۹۰۳ بوڑھے کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے
- ۹۰۳ حلال کمائی اور آرزوؤں کی کمی کا نام زہد ہے
- ۸۸۸ آگ کی دوزبانوں سے بچیں
- ۸۸۹ افسوس ہے تم پر! تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی
- ۸۸۹ دوزخ میں اور دوزخ میں پہنچاتی ہیں
- ۸۸۹ افسوس ہے اس شخص پر! افسوس ہے اس شخص پر!
- ۸۹۰ اپنے ذمہ دار کے سامنے کسی ساتھی کی شکایت نہ کریں
- ۸۹۰ غیبت دریا کو بھی خراب کر دیتی ہے
- ۸۹۰ کسی کو گناہ پر عار نہ دلانے
- ۸۹۰ کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کریں
- ۸۹۰ فاسق کی تعریف سے عرش بھی کانپ اٹھتا ہے
- حضرت محمد ﷺ نے سات بکھرے موتی ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۸۹۱ کو دیے
- ۸۹۱ غیبت کا کچھ کفارہ ادا کر دیجیے
- ۸۹۲ وعدہ کے پاس ولحاظ کا نادر ترین واقعہ
- ۸۹۲ حسن معاشرہ کی مثال
- ۸۹۲ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت
- ۸۹۳ مسلمان بھائی کے حقوق
- ۸۹۳ جنتی اور جہنمی آدمی
- ۸۹۳ اور دوزخی پانچ طرح کے ہیں
- تین دفعہ آپ ﷺ نے قسم کھائی ہے پڑوسیوں کو ایذا
- ۸۹۳ پہنچانے والا کامل مؤمن نہیں
- ۸۹۳ جنت میں نبی ﷺ کے پڑوس میں رہنے کا نبوی نسخہ
- ۸۹۳ جنت واجب کرنے والے کام
- ۸۹۳ بیوہ عورت بچوں کی تربیت پر دھیان دے
- ۸۹۵ پڑوسی اچھا کہیں تو آپ اچھے، پڑوسی برا کہیں تو آپ برے
- ۸۹۵ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی فضیلت
- ۸۹۵ ستر ہزار فرشتوں کو اپنے پیچھے چلانے کا نبوی نسخہ
- ۸۹۶ سات بری خصلتیں معاشرہ کو بگاڑ دیتی ہیں
- ۸۹۶ کینہ نہ رکھیے، صلح و صفائی کر لیجیے
- ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے

- ۹۱۲ اسکول کی تعطیلات اپنے وطن گھٹا من میں
- ۹۱۳ دنیا قدموں میں آئے گی
- ۹۱۴ ممبئی میں دینی تعلیم اور نکاح
- ۹۱۴ چار ماہ کے لیے تبلیغی جماعت میں
- ۹۱۵ دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ
- ۹۱۵ والدہ کی وفات
- ۹۱۶ بعض عورتیں پورے گھرانے میں دین لانے کا سبب بنتی ہیں
- ۹۱۶ وقت کی قدر و قیمت
- ۹۱۶ لاکھوں انسانوں کو دین و ایمان کی بات سنانے کی ایک کامیاب مثال
- ۹۱۷ اجتماعات میں آپ کے بیانات کی نوعیت
- ۹۱۸ آپ کی زندگی کے آخری ایام
- ۹۱۹ آپ کا اہل وطن اور قوم سے آخری خطاب عام
- ۹۲۰ دین و ایمان کا نور اور روشنی پھیلانے والا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا
- ۹۲۱ **تعزیت نامے**
- ۹۲۱ احباب شوری رائے ونڈ کی طرف سے تعزیت نامہ
- ۹۲۲ مجلس شوری دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تعزیت نامہ از طرف حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہر
- ۹۲۲ دوئی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى
- ۹۲۲ تعزیت نامہ از طرف حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب
- ۹۲۳ لاچپوری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى
- ۹۲۳ تعزیت نامہ از طرف حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب فیروز پوری پالن پوری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى
- ۹۲۴ تعزیت نامہ از احباب شوری موریشس
- ۹۲۴ تعزیت نامہ از مسجد دار جماعت چپاناز امبیا
- ۹۲۵ خصوصیات، صفات اور معمولات
- ۹۲۷ سادگی اور تواضع
- ۹۲۸ صبر و تحمل اور شفقت
- ۹۰۴ یہ دنیا بس چار آدمیوں کے لیے ہے
- ۹۰۴ جہاں تک اس زمانہ کا تعلق ہے تو اب مال و دولت بھی مسلمانوں کی ڈھال ہے
- ۹۰۵ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ ساٹھ سال کی عمر والے لوگ کہاں ہیں؟
- ۹۰۵ اللہ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جس نے اسلام کی حالت میں زیادہ عمر پائی
- ۹۰۵ خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کیونکہ جو چیز خدا کے پاس ہے اس کو اس کی اطاعت و خوشنودی نبی کے ذریعہ پایا جاسکتا ہے
- ۹۰۶ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک، ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا
- ۹۰۷ بلاشبہ انسان کے دل کے لیے ہر جنگل میں ایک شاخ ہے
- ۹۰۷ رزق بندے کو تلاش کرتا ہے
- ۹۰۷ آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کے طلب گار ہوں گے ان کا انجام پڑھے
- ۹۰۷ آخر زمانہ میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی مگر باطن میں دشمن ہوں گی
- ۹۰۸ شرک خفی، مسج دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے
- ۹۰۸ نوباتوں کا حکم
- ۹۰۹ قرب قیامت شر و فساد کرنے والا عقلمند شمار ہوگا
- ۹۰۹ کون سے گناہ پر کونسا عذاب آتا ہے
- ۹۰۹ یہودیوں کا درخت کونسا ہے؟
- ۹۰۹ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی نکالے گا
- ۹۱۰ سب سے پہلے ختم ہونے والی مخلوق مڈی ہے
- ۹۱۰ رکعت چھوٹنے کی چار شکلیں اور ان کے پورا کرنے کے طریقے
- ۹۱۱ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پانچپوری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى
- ۹۱۱ وطن، ولادت اور زمانہ طفولیت

- ۹۳۱ ہر انسان کے لیے چار منزلیں
- ۹۳۲ طاقتِ ایمان کیا ہے؟
- ۹۳۳ صفاتِ ایمانی پر معیتِ خداوندی کا وعدہ ہے
- ۹۳۳ ایک یورپین آدمی کے سوالات کا اطمینان بخش جواب
- دینی دعوت کی بے شمار مصروفیات کے باوجود فنِ فلکیات کے متعلق عمیق باتیں
- ۹۳۵ والد صاحب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نے کئی بار خواب میں حضور ﷺ کو دیکھا ہے
- ۹۳۵ والد صاحب کی تدفین سے پہلے خواب
- ۹۵۱ حضرت والد صاحب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کا پہلا چلہ
- ۹۵۲ نذرانہ عقیدت
- ۹۵۳ جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ
- ۹۵۴ ہر قسم کی پریشانی سے چھٹکارے کا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دیجیے
- ۹۵۴ بکھرے موتی
- ۹۵۷ وقت کی قدر
- ۹۵۷ منتخب اشعار
- ۹۶۱ ۷۲ چیزیں قربِ قیامت کی علامت ہیں!
- ۹۶۳ اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ داعی الی الخیر بھی لگایا کرو
- پانی منہ میں رکھ لینا، اور بیٹھ جانا پانی نگلنا بھی نہیں اور باہر نکالنا بھی نہیں
- ۹۶۴ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ”ہوا“
- ۹۶۷ رسول اللہ ﷺ کی گھبراہٹ
- ۹۶۷ تیز ہوا چلے تو یہ دعا پڑھے
- ۹۶۷ ہوا کو برامت کہو
- ۹۶۸ قرآنی معلومات
- ۹۶۸ دربارِ خداوندی کا انعقاد
- ۹۶۸ ① آخرت میں رویتِ خداوندی کا مقام
- ۹۶۹ ② دربارِ خداوندی میں اہل جنت کی شرکت
- ۹۲۹ مرکز نظام الدین میں متواتر تیس سال تک بعد فجر مفصل بیان
- ۹۳۱ والد صاحب رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى کے خصوصی ملفوظات
- ۹۳۵ دین و دعوت اور داعی کی دل نشین تشریح
- ۹۳۵ انسان کے تجربہ سے زیادہ کئی بات
- ۹۳۵ اصل کام
- ۹۳۵ ذکر رسول کے ساتھ فکر رسول
- ۹۳۵ فتویٰ اور فتویٰ کیا ہے
- ۹۳۵ اصول میں لچک ہے
- ۹۳۵ اصل یہ ہے کہ آدمی اصول پر آجائے
- ۹۳۶ طریقہ اجتماعیت
- ۹۳۶ صرف محنت باقی ہے
- ۹۳۶ حیاتِ دین کے لیے اہم شے
- ۹۳۶ لیاقت شرط نہیں ہے
- ۹۳۶ شیطان کا دھوکہ
- ۹۳۷ مقصدِ جہاد کیا ہے؟
- ۹۳۷ دین کیسے پھیلے گا؟
- ۹۳۷ رات دن کا تجربہ اور مشاہدہ
- ۹۳۷ قربانی کی سیرھی یا چبوترہ
- ۹۳۸ حصولِ ہدایت کے لیے دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے
- ۹۳۸ تخلیقِ کائنات کی چار مصلحتیں
- ۹۳۹ آج کی سب سے بے قیمت مخلوق
- ۹۳۹ بعثتِ بعد الموت کی پختہ دلیل
- ۹۳۹ چھیننے کا مزاج اور دینے کا مزاج
- ۹۴۰ دعا اور محنت میں تطابق ضروری ہے
- ۹۴۰ بروز قیامت خدا کا معاملہ فضل کا ہوگا یا عدل کا
- ۹۴۰ راز کی بات علی الاعلان عالم کے سامنے
- ۹۴۰ دنیا کی حکومتوں کے پاس طریقہ راحت و امن نہیں ہے
- ۹۴۱ جہنم اہل ایمان کے لیے ہسپتال اور شفا خانہ ہے
- ۹۴۱ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترین طریقہ

- ۹۷۹ ایک آنسو کا مقام ۹۷۰ ۳) دربار خداوندی میں شراب طہور کا دور
- والدین کے ساتھ میدان حشر میں سلوک کرنے والے کا ۹۷۰ ۴) حضرت داؤد عَلَيْهِ السَّلَام کی تلاوت و مناجات
- ۹۸۰ عجیب قصہ ۹۷۰ ۵) جمال خداوندی کے دیدار کا سوال
- ۹۸۰ اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے والا نوجوان ۹۷۱ ۶) نعمت مزید
- ایک ملک ایسا بھی ہے جو ویران نہ ہو اور نہ اس کا مالک ۹۷۱ امارت قبول کرنے سے انکار کرنا
- ۹۸۰ مرے آپ کی کتاب ”مومن کا ہتھیار“ حیض کی حالت میں پڑھ
- ۹۸۱ بے تکلف ہونے کے باوجود بھی اجازت ضروری ۹۷۲ سکتی ہوں یا نہیں
- ۹۸۱ علم کی اہمیت ۹۷۳ بے عقلی بھی نعمت ہے
- ۹۸۱ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی ایک ”مظلوم“ غزل ۹۷۴ دنیا کی بہترین نعمت، نیک اور دیندار بیوی ہے
- ۹۸۲ رحمت کی گھٹا اٹھی اور ابر کرم چھایا ۹۷۶ حقیقت حسن
- ۹۸۲ زندگی جس جگہ بھی گزرے یادِ خدا میں گزرنی چاہیے ۹۷۶ دل کا زنگ دور کرنے کا نبوی نسخہ
- دفاعے محبوب سے جفائے محبوب زیادہ لذت بخش ہوا کرتی ۹۷۶ دوسروں کی اولاد کو برا کہنا بھی گناہ ہے
- ۹۸۳ ہے ۹۷۷ حضور اکرم ﷺ کی مبارک مجلس کا ایک واقعہ
- ۹۸۴ محبوب کی ہر ادا محبوب ہی ہے ۹۷۸ دینِ فطرت اور ہماری زندگی

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُجِيبِينَ

اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُجِيبِينَ